


# لُور الْإِصَار

## بِذِكْرِ الْمَتَّعِ

(سیر و فضائل نبی ﷺ کا مختصر تذکرہ)



شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادی

منہاج القرآن پبلیکیشنز



# نور الابصار

بِذِكْرِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ سیرت و فضائل نبوی ﴿صلی اللہ علیہ وسلم﴾ کا مختصر تذکرہ ﴾

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادی

منهاج القرآن پبلیکیشنز

042-111-140-140، 5168514، فون: ائم، ماؤں ناؤں لاہور،


یوسف مارکیٹ، غزنی شریٹ، اردو بازار، لاہور، فون: 042-7237695

[www.Minhaj.org](http://www.Minhaj.org) - [sales@Minhaj.org](mailto:sales@Minhaj.org)

**نام کتاب : نور الابصار بذکر النبی المختار ﷺ**  
**جلد حقوق حق تحریک منہاج القرآن محفوظ ہیں**

تالیف	پروف ریڈنگ	زیر اعتمام	مطبع
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری	محمد ساج الدین کلائی	فرید ملت رویسرچ انسٹی ٹوٹ	منہاج القرآن پرنٹرز، لاہور
(1,100)	ستمبر 1992ء	اشاعت نمبر 1	
(3,000)	ماрچ 1993ء	اشاعت نمبر 2	
(19,600)	اگست 1994ء تا اگست 2009ء	اشاعت نمبر 13	
(1,100)	مئی 2010ء	اشاعت نمبر 14	
(1,200)	ماрچ 2011ء	اشاعت نمبر 15	
(1,200)	فروری 2012ء	اشاعت نمبر 16	
(1,200)	نومبر 2013ء	اشاعت نمبر 17	
(1,200)	اپریل 2015ء	اشاعت نمبر 18	
	نومبر 2017ء	اشاعت نمبر 19	
1,100		تعداد	
240/- روپے		قیمت	

نوت: شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصانیف اور خطبات و پچھرے کی CDs / DVDs وغیرہ سے حاصل ہونے والی جملہ آمدی اُن کی طرف سے ہمیشہ کے لیے تحریک منہاج القرآن کے لیے وقف ہے۔  
 (ڈاکٹر یکشہ منہاج القرآن پبلیکیشنز)



مَوْلَائِي صَلَّ وَسَلِّمُ دَآئِمًا أَبَدًا  
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ  
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ  
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

﴿صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

حکومتِ پنجاب کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس او (پی۔۱) ۸۰/۱-۲ نامی  
وی، موئرخہ ۳۱ جولائی ۱۹۸۳ء؛ حکومتِ بلوچستان کی چٹھی نمبر ۸۷-۳-۲۰ جزء  
وایم ۹۷۰-۳-۷، موئرخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۸۷ء؛ حکومتِ شمال مغربی سرحدی صوبہ  
کی چٹھی نمبر ۲۲۳۱۱-۶۷-۱ این۔۱ /۱ے ڈی (لابریری)، موئرخہ ۲۰ اگست  
۱۹۸۶ء؛ اور حکومتِ آزاد ریاست جموں و کشمیر کی چٹھی نمبر ست / انتظامیہ  
۴۱-۶۱/۸۰۶۱، ۹۲، موئرخہ ۲ جون ۱۹۹۲ء کے تحت ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی  
تصنیف کردہ کتب تمام سکولز اور کالجز کی لابریریوں کے لئے منظور شدہ ہیں۔

## فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
	مقدمہ	۷
۹	باب۔ ۱ نورِ محمدی ملِ ﷺ خلقت سے ولادتِ نبوی ملِ ﷺ تک	
۲۱	باب۔ ۲ حضور ملِ ﷺ کے حُلیہ مبارک کا بیان	
۴۵	باب۔ ۳ حضور ملِ ﷺ کی طرزِ معاشرت اور دنیوی تقاضوں کا بیان	
۶۱	باب۔ ۴ حضور ملِ ﷺ کے خصائص مبارک کا بیان	
۶۹	باب۔ ۵ حضور ملِ ﷺ کے خصائص مبارک کا بیان	
۸۴	باب۔ ۶ حضور ملِ ﷺ کے اخلاقِ مبارک کا بیان	
۹۵	باب۔ ۷ حضور ملِ ﷺ کے ذوقِ عبادت اور خیثتِ الٰہی کا بیان	
۱۵	باب۔ ۸ حضور ملِ ﷺ کی محبت و تعظیم میں صحابہ کرام کے معمولات کا بیان	
۱۱۲	باب۔ ۹ حضور ملِ ﷺ کے مجذبات و تصرفات کا بیان	
۱۳۲	باب۔ ۱۰ حضور ملِ ﷺ کے برزخی و اخروی احوال کا بیان	
۱۵۳	باب۔ ۱۱ حضور ملِ ﷺ کے فضائل میں چالیس احادیث مبارکہ کا بیان	
۲۲۲	باب۔ ۱۲ حضور ملِ ﷺ کی شانِ اقدس میں بعض عشقان کا نقیبہ بیان	
۲۴۵	دیوانِ حسان بیٹھو	
۲۴۲	قصیدہ بُردہ شریف	
۲۵۹	سلام بکضور سیدِ خیر الانام ملِ ﷺ	



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## مقدمة

موجودہ دور میں سیرت نبوی مطہریہ اور فضائل نبوی پر بالعوم الگ الگ کتب اور رسائل تصنیف کے جاتے ہیں دونوں مضامین یک جایاں کرنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ جس سے حضور نبی اکرم مطہریہ کی ذات گرامی سے تعلق نسبت، عقلی اور قلبی دو الگ حصوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجہ تھا مجت رسول مطہریہ اور اتباع رسول مطہریہ دو علیحدہ ابواب تصور ہونے لگے ہیں اس روشن سے ہماری نوجوان نسل کو ایمان بالرسالت کے باب میں آرزو تھی کہ اسلاف اور قدماء محدثین کے طریق پر ایک ایسی مختصر کتاب تالیف کی جائے جو یہ وقت فضائل نبوی مطہریہ، فضائل نبوی مطہریہ اور شماکل نبوی مطہریہ کے تینوں مضامین کی جامع اور اطاعت و اتباع کے دونوں ایمانی گوشے یک جا کرنے والی بھی ہو۔ مزید یہ کہ اس کا انداز سادہ، عام فہم اور بیانیہ ہو، اس میں ہر موضوع سے متعلق احادیث و روایت اور اخبار و آثار، تراجم کی شکل میں اپنی مختصر سندات اور مأخذ کے ساتھ جمع کر دیئے جائیں۔ جسے تمام اہل مجت اپنے ذوق ایمانی کی تکشیں کے لئے آسانی سے پڑھ سکیں۔ اور اپنی خلوت و جلوت میں حضور مطہریہ کے ذکر حسیں سے لذت اور حلاوت ایمانی حاصل کر سکیں۔ الحمد للہ ایہ آرزو یقیناً الٹی اس مجموعہ کو ترتیب دینے سے پوری ہوئی۔ اس مجموعہ کی تیاری میں جن کتب سے مدد لی گئی ہے ان میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، مکہواۃ المصانع، شماکل ترمذی، وفاء الوفاء، المواهب اللدنیہ، شرح المواهب للزرقاوی، حاشیہ الشماکل للبیجوری، الانوار الحمدیہ للتبیانی، الشمامہ، العنبیریہ، شیم الحبیب، سیرت النبی للشبل اور نشر الحبیب شامل ہیں۔ بعض ذاتی تصنیفات کے چند متعلقہ حصے بھی اس میں مناسب خیال کرتے ہوئے شامل کر دیئے ہیں۔ مذکورہ بالا بعض کتب سے بعض احادیث اور روایات انگلی ہیں اور بعض کتب کے متعلقہ مقامات جزوی طور پر مضمون کی منابع سے معمولی روبدل کے ساتھ لے لئے گئے ہیں۔ اسی طرح بعض عربی کتب کے

ترجم احرقر نے حسب ضرورت خود کر کے شامل کتاب کئے ہیں۔ اور بعض کے مطبوعہ تراجم  
ہی ضروری ترمیمات و تصحیحات کے ساتھ اختیار کرنے گئے ہیں۔

چنانچہ یہ تالیف مسلسل کتب حدیث، کتب سیر، کتب فضائل اور کتب شماں کے  
ایک منتخب مجموعہ کی حیثیت رکھتی ہے اس میں حضور ﷺ کے نورِ اقدس کی خلقت، آپ کی  
ولادت با سعادت، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی طرزِ معاشرت، آپ کا اسباب دنیوی کا  
اختیار فرمانا، آپ کے خصائص مبارکہ، آپ کے اخلاق مبارکہ، آپ کی خلیلۃ الرحمٰن اور  
ذوقِ عبادت، آپ کی محبت و تنظیم میں صحابہ کرام کے معمولات، آپ کے مجرمات و  
تصرفات، آپ کے برزخی اور اخروی احوال اور آپ کی شانِ اقدس میں منتخب تعریفہ کلام۔  
الغرض آپ کے ذکرِ حسین کے بہت سے پہلو انحضر کے ساتھ سمونے کی کوشش کی گئی  
ہے۔ احرقر نے حضور ﷺ کی شانِ اقدس میں بخاری، مسلم اور ترمذی کی چالیس منتخب  
احادیث کا ایک الگ مجموعہ ”الاربعین فی فضائل الہمیں ﷺ“ کے نام سے مرتب کیا  
تھا۔ اسے بھی اس کتاب میں گیارہویں باب کے طور پر شامل کر دیا گیا ہے۔ ہر چند کہ  
شانِ رسالت مآب ﷺ کے موضوع پر حسب توفیق احرقر کی کئی دیگر صانعین بھی ہیں۔  
”سیرۃ الرسول ﷺ“ کے نام سے چند جلدیوں پر سیرت النبی ﷺ کی مستقل کتاب بھی  
مرتب ہو رہی ہے۔ مگر یہ سارا کام مزاجاً تحقیقی، علمی اور فکری نوعیت کا ہے، جبکہ زیرِ نظر  
مجموعہ ذکر رسول ﷺ کے متفرق حسین تراشوں کو محض ترتیب دینا ہے۔ اسے بعد مجز و نیاز  
حضرت امام شرف الدین بوصیری (صاحب قصیدہ بردہ) کی طرح حضور نبی اکرم رحمت دو  
علم ﷺ کی بارگاہ یکس پناہ میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔

## ۰۔ گر قبول افتذ زہ عزو شرف

امید کرتا ہوں کہ الہ ایمان اس مجموعہ سے محاذیں اور مجالس سیرت میں  
استفادہ کریں گے۔ اور احرقر کے لئے مغفرت و قبولیت کی دعا فرمائیں گے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهٖ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ الصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى إِلَكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ.

خاک کوئے مدینہ

پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری

## باب اول

نور محمدی ﷺ

خلقت سے ولادت نبوی ﷺ تک



اس باب میں حضور ﷺ کی خلقت مبارکہ سے ولادت مطہرہ تک کا ذکر نہایت مختصر طریق پر کر دیا گیا ہے تاکہ اہل ایمان و محبت اسے ہر وقت تھائی میں اور جالس میں بالخصوص مخالف میلاد میں سولت اور ذوق و شوق سے پڑھ سکیں اور سن سکیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضور ﷺ کی ولادت باسعادت کے تذکرے کا کیا فائدہ ہے اور اس کی شرعی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ تو جان لو کہ اہل محبت کو ایسے سوال کی ہرگز ضرورت نہیں پڑتی ان کے لئے تو یہی کافی ہے کہ انہیں اپنے محبوب ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری کا کچھ حال معلوم ہو۔ بلکہ وہ تو یوں کہیں گے! کچھ اور سناؤ ابھی طبیعت سیراب نہیں ہوئی یہ سوال اہل دلیل کر سکتا ہے یا اہل انکار۔

آگاہ رہو کہ اہل انکار کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ان کے لئے خاموشی بہتر ہے البتہ اہل دلیل کے لئے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے پیاروں کی ولادت کا تذکرہ اللہ رب العزت کی اپنی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کی تفصیلات بیان کیں۔ جنت میں ان کے قیام و طعام اور زمین پر ہبوط کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے بچپن کے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بچپن کے حالات بیان فرمائے پھر حضرت مریم ملیما السلام کی ولادت اور ان کے بچپن کا حال بیان فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بچپن کے حال کا ذکر فرمایا اور پھر نجف روح کے ذریعے حضرت مریم ملیما السلام کے حمل سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت تک کا پورا واقعہ بیان کیا۔ بوقت

ولادت حضرت مریم ملیہ السلام کے درود زہ، پریشانی اور جملہ کیفیات کا ذکر کیا جماں  
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا اس مقام کا بیان کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس  
وقت قدرتِ الٰہ سے جو خوراک کھجوریں اور پانی میا کیا گیا اس کا بیان کیا۔ حتیٰ کہ ان  
کی قوم کے طعنے آپ کی خاموشی اور اشارے سے جواب، الفرض حضرت عیسیٰ علیہ  
السلام کا بولنا، اور آپ علیہ السلام کا ابتدائی کلام جو آپ نے گوارے میں کیا سچے  
بیان فرمائے کہ ارشاد ہوا:

ذَالِكَ عَيْنُنِي أَنْ مَوْهِمَ قَوْلُ الْعَقْ  
الَّذِي فَيَمْتَرُونَ

(مریم ۳۳:۱۹)

اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دو جملوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تلقون ہونے  
اور متولد ہونے کا بیان فرمائے کا سکنا تھا، مگر اس نے اپنے بیاروں کی ولادت کا تفصیل سے ذکر  
فرہیا اور اس عمل کو ہمارے لئے قرآنی حکم اور اپنی سنت بنا دیا۔ پھر کائنات میں حضور  
صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا پیرا اور زکون ہو سکتا ہے۔ اس لئے انبیاء کے کرام کی ولادتوں کا  
 فقط بیان فرمایا مگر حضور ﷺ کی ولادت مطہرہ کی نسبت سے قسم کھائی اور ارشاد فرمایا:  
لَا أُقِيمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْثَ جَلَّ میں اس شر (مکہ) کی قسم کھاتا ہوں اور  
بِهَذَا الْبَلَدِ وَالدِّيْوَنَأَوْلَدَ میں اسی شر میں رہتے ہیں اور قسم  
ہے بآپ کی اور اس کی اولاد کی۔

(البلد ۹۰:۱۳)

ان آیات میں حضور ﷺ کے شہر ولادت "مکہ" کی قسم کھائی گئی، آپ ﷺ کے قیام اور رہنمائی کی قسم کھائی گئی، آپ ﷺ کے والد ماجد یا جد احمد کی  
قسم کھائی گئی اور بالآخر آپ ﷺ کے مولود ہونے کی قسم کھائی گئی۔ گویا حضور ﷺ کے پورے نسب مبارک اور میا دباق کا بیان بصورت قسم آگیا یہی سنت ہم نے اس  
مضمون میں اپنے پیش نظر رکھی ہے۔

اگر تکمیل سلم ہوتا ہی قدر قسم کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

سے لے کر موجودہ زمانے تک ہر دور میں اسلاف اور بزرگان دین اپنے اپنے طریقے اور ذوق و تحقیق کے مطابق حضور ﷺ کے مولود مبارک کا ذکر کرتے رہے اس پر رسائل اور کتابیں لکھتے رہے، ولادت مطہرہ کے واقعات و عجائب روایت کرتے رہے۔ مخالف اور جاس میں انہیں پڑھ کر، سن کر اور سننا کر ایمان و محبت کی تازگی کا سامان فراہم کرتے رہے۔ تاریخ اسلام کا کوئی زمانہ اس مبارک اور محبوب عمل سے خالی نہیں رہا۔ اس لئے حضور انہی میں انجام ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت کے ذکر پاک کی برکت سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرمائے اور ہمیں حضور ﷺ کی محبت کی دولت عظیٰ میں سے خیرات عطا فرمائے۔ (آمین بجاه سید المرسلین ﷺ)

(۱) امام عبد الرزاقؓ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رہنما سے روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے آقا ﷺ سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر ندا ہوں مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پسلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ ﷺ نے فرمایا "اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پسلے تیرے نبی کا نور اپنے نور (کے فیض) سے پیدا کیا پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کر تاہما۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج، نہ چاند تھا نہ جن اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کے اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ پھر ساری کائنات کی تخلیق اسی نور کے قوت سے ہوئی۔

(۲) امام قسطلانیؓ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حکم فرمایا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے جب حضور ﷺ کے نور مبارک نے دیگر انبیاء کرام کی ارواح و انوار پر توجہ فرمائی تو اس نور نے ان سب انوار کو ڈھانپ لیا۔ انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ ہمیں کس نے ڈھانپ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یہ محمد ﷺ کا نور ہے اگر تم ان پر ایمان لاوے گے تو تمیں شرف نبوت سے بہرہ ور کیا جائے گا اس پر

سب ارواح انبیاء نے عرض کیا باری تعالیٰ ہم ان پر ایمان لائے ہیں۔ اس کا مکمل ذکر  
اس آیت کریمہ میں ہے۔

یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے  
تمام انبیاء سے یہ عمد لیا کہ جب میں  
تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے  
بعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے  
پاس میرا پیارا رسول آجائے تو سب  
اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی  
مدد کرنا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَلَ النَّبِيِّينَ لَمَّا  
أَتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَهُ  
كُمْ رَسُولٌ تَصَدَّقَ لِمَا نَعْلَمُ  
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنَسْرُفُنَّهُ  
(آل عمران، ۳: ۸۱)

حضرت ابن عباس<sup>ؓ</sup> اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ پھر  
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عمد بھی لیا کہ وہ اپنی اپنی امت کو بھی حضرت محمد ﷺ پر  
ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے چنانچہ تمام انبیاء کرام نے  
ایسا ہی کیا۔

(۱) حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ  
ﷺ کے لئے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس  
وقت جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جد کے درمیان تھے یعنی ان کے تن میں جان  
بھی نہ آئی تھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کر کے حسن قرار دیا ہے۔

(۲) امام شعبی<sup>ؓ</sup> سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اپ  
کب نبی بنائے گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جد  
کے درمیان تھے جب کہ مجھ سے میثاق نبوت لیا گیا۔

(۳) حضرت میرزا الغفران<sup>ؒ</sup> سے مروی ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ  
اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کب کے نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا (میں  
اس وقت سے صفت نبوت سے موصوف ہوں) جب کہ آدم علیہ السلام روح و جسم کے

در میان تھے یعنی ابھی ان کی روح کا جسد اطراف سے تعلق نہیں ہوا تھا۔

(۶) حضرت عیاض بن ساربیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ابھی اپنے خیری میں تھے یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا (احمد اور بیہقی نے اسے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح الاستاذ کہا ہے)

(۷) احکام ابن القطان "میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے وہ اپنے باپ امام حسین علیہ السلام اور وہ ان کے جد احمد یعنی حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔

(۸) حضرت میرہ سے مตقوں ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت ﷺ میں عرض کیا کہ حضور ﷺ! آپ کب سے شرف نبوت کے ساتھ شرف ہو چکے تھے؟ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی طرف قصد فرمایا اور ان کو سات طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کو ان سے پہلے بنایا تو عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء لکھا اور جنت کو پیدا فرمایا جس میں بعد ازاں حضرت آدم اور حضرت حوا ملکہ السلام کو مُھرایا تو میرا نام ناہی جنت کے دروازوں پر اس کے درختوں کے پتوں اور اہل جنت کے نیجوں پر لکھا۔ حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام کے روح و جسم کا بھی تعلق نہیں ہوا تھا۔ پس جب ان کے روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطا فرمائی تب انہوں نے عرشِ معظم کی طرف نگاہ انھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ جب ان کو شیطان نے دھوکہ دیا انہوں نے بارگاہِ الہی میں توبہ کی اور میرے نام سے ہی شفاعت طلب کی (محدث ابن جوزی نے اسے الوفاء میں روایت کیا ہے)

بلکہ صحیح میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں

نقطہ پانی پر تھا (یعنی نیچے صرف پانی اور اوپر اسی کو معلوم ہے کیا تھا) اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا اس میں ایک بات یہ تھی ان محمد اطہار النبیین خاتم النبیین "محمد ﷺ سب سے آخری نبی ہیں"۔ اسے امام نبیانی نے الانوار المحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب و روز وجود میں نہیں آتے تھے اللہ تعالیٰ ہی بترا جاتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت پچاس ہزار سال بتائی گئی ہے اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہو گا۔

(۹) حاکم نے اپنی متدرک میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد ﷺ کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔

فائدہ:- اس سے آپ ﷺ کی فضیلت کا اظہار آدم علیہ السلام کے سامنے موجود کرنا مقصود تھا۔

(۱۰) یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد ﷺ کی کنیت سے بلایا۔ آپ ﷺ نے عرض کی باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی ﷺ جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد ﷺ کا نور ہے۔ یہ تحریک ولاد میں سے ہوں گے ان کا نام آسمانوں میں احمد ﷺ ہے اور زمین پر محمد ﷺ ہے اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔

(۱۱) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے بارگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی

کے اے پروردگار میں آپ سے بواسطہ حضرت محمد ﷺ درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرم۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام تم نے محمد ﷺ کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ تو نے جب اپنی طرف سے روح میرے اندر پھونگی۔ میں نے سر جو اخیات تو میں نے عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا۔ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے یہ شخص کے نام کو ملایا ہے جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہو گا۔

حق تعالیٰ نے فرمایا! اے آدم تم چچے ہو۔ واقعی محمد ﷺ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں اور جب تم نے ان کے واسطہ سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کی اور اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ امام طبرانیؓ نے اس کا ذکر کر کے مزید یہ روایت کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہاری اولاد میں سب انبیاء سے آخری نبی ہیں۔

(۱۲) حضرت وہب بن حرب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وہی فرمائی کہ میں مالک شان الہیت ہوں اور مکہ کا مالک ہوں اس کے رببے والے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اس کے زائرین میرے مہمان ہیں اور میری پناہ میں ہیں۔ یہ میرا گھر ہے جس کو میں اہل آسمان اور اہل زمین سے آباد کروں گا لوگ اس کی طرف جو ق در جو ق آئیں گے اگرچہ وہ پر اگدہ بالوں اور غبار آؤں جسموں والے ہوں گے وہ عجیروں کے ساتھ آوازوں کو بلند کریں گے کبھی تلبیہ (لَتَبَكُ اللَّهُمَّ لَتَبَكُ لَا شَرِيكَ لَكَ لَتَبَكُ) کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں زاری کریں گے کبھی اعشاری کے ساتھ آنکھوں سے سیلاپ اٹک بماتے ہوں گے جو میرے اس گھر کا خالص قصد ہے کہ آئے گا دوسرا کوئی مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہو گا تو وہ شخص یہی درحقیقت میرا زائر ہے اور مہمان ہے اور میری منزل قرب میں اترنے والا ہے اور میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں اس کی مدد و برتری اور رونق وہمادہ تمہاری اولاد میں سے اس نبی کے حوالے کروں گا جن کو ابراہیم کما جائے گا۔

میں ان کے لئے اس گھر کی بنیادیں بلند کروں گا اور ان کے ہاتھوں پر اس کو مکمل کروں گا۔ پھر اس گھر کو لوگ یکے بعد دیگرے آباد کرتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ آبادی کی انتہا تمہاری اولاد میں اس نبی پر ہوگی جن کو محمد ﷺ کے مبارک نام سے پکارا جائے گا وہ آخری نبی ہوں گے میں ان کو بیت اللہ کا بابی و والی بناوں گا اور اس کا محافظ و نگران اور اس کے زائرین کو آب زمزم پلانے والا بناوں گا اگر اس وقت کوئی میرے متعلق دریافت کرے (اور مجھے ملتا چاہے) تو میں اس نبی آخر الزمان کے پر اگنڈہ بال غبار آلوں غلاموں کے ساتھ ہوں گا جو اپنی نذر و موت کو پورا کرنے والے ہوں گے اور دل و جان سے میری طرف متوجہ ہوں گے۔

(۱۳) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اگر محمد ﷺ موجود نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا۔ جب میں نے عرش کو پیدا کیا تو وہ میری بیت و جلالت سے لرزنے لگ گیا جب میں نے اس پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ لکھا تو اس کو سکون و قرار آگیا۔

(۱۴) حضرت کعب الاحبار الله تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے محمد عربی ﷺ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی منی میرے پاس لے آؤ جو میرے محظوظ پاک کے جسم اقدس اور جسد اطہر کی تخلیق کے لائق ہو تو وہ سفید منی کی ایک مٹھی روپہ اطہر والی جگہ سے لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو امر خداوندی میں اس کو تنیم کے پانی سے گوندھا گیا۔ جنت کی نرسوں میں اسے دھویا گیا پھر (نور نبوت اس میں رکھ کر) اس کو عرش دکری لوح و قلم اور آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ پھرایا گیا تاکہ ملانکد اور ہر شے حضور محمد مصطفیٰ ﷺ کے شرف و نصلی کو بچانے لے۔

ابھی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ جانا تھا پھر نور محمدی تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان کی پشت میں ودیعت کیا گیا جو کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جھلکنے والے ازار سے محسوس ہوتا تھا اور ان سے کہا گیا اے آدم یہ تیری نسل میں پیدا

ہونے والے انبیاء و مرسیین کے سردار ہیں۔ جب حضرت حوا کے بطن اطہر میں حضرت شیش علیہ السلام منتقل ہوئے تو وہ نور بھی حضرت حوا کے بطن اقدس کی طرف منتقل ہو گیا وہ ہر دفعہ دو جزوں پھوٹ کو جنم دیتی تھیں ماسوا حضرت شیش علیہ السلام کے کیونکہ وہ آنحضرت ملائیہ تھیں کے جد امجد ہونے کی برکت سے تناپیدا ہوئے اور سب بھائیوں سے مرتبہ و کمال کے لحاظ سے یکتا بنے۔

پھر نبی الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نور انور یکے بعد دیگرے پاک پشوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا تا آنکہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

(۱۵) ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ تمہاری پشت میں حضرت محمد ملائیہ تھیں کا نور مبارک ہے سو اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا سوائے پاک عورتوں کے کسی کارم اس نور کا مسکن اور نہکانہ نہیں بن سکے گا۔ سو یہ وصیت نسل در نسل حضور ملائیہ تھیں کے نسب مبارک کا ہر فرد اپنے بیٹے کو کرتا رہتا آنکہ یہ نور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشوں اور پاکیزہ رحموں میں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبد اللہ کی پشت مبارک تک آن پہنچا۔

(۱۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ ملائیہ تھیں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت مبارک میں زمین پر ایسا اور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں کشتی کے اندر رکھا اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھا جب انہیں دہقی آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح ہر دور میں مجھے مبارک پشوں سے مبارک ارحام کی جانب منتقل کیا جاتا رہا۔ یہاں تک کہ میں اپنے والدین کریمین کے گھر جلوہ افروز ہوا۔ ان میں کوئی بھی بد کاری کے نزدیک تک نہیں گیا۔

(۱۷) حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملائیہ تھیں نے فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوں اور غلط کاری سے پیدا نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک جاہلیت کی غلط کاری کا کوئی ذرہ مجھ کو نہیں پہنچا۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جو بے اختیاطی ہوا کرتی تھی میرے تمام آباء و امهات سب اس سے منزہ رہے۔ پس

میرے پورے نسب میں اس کا کوئی میل نہیں۔

(۱۸) روایت کیا ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رض سے مرفو عالمیعنی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بزرگوں میں سے کبھی کوئی مرد و عورت بطور سفاح کے نہیں ملے (کبھی کام طلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو مثلاً حمل ہی نہ نہرا ہو۔ وہ بھی بد نکاح نہیں ہوئی یعنی آپ کے سب اصول مذکروں میں وہ بھی نہیں برے کام سے پاک رہے) اللہ تعالیٰ یہیش مجھ کو اصلاح طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف مصیح اور مذہب کر کے منتقل کرتا رہا جب بھی لوگوں میں دو شجاعے ہوئے میں بترن شعبد میں ربا (کذا فی المواهیب)

(۱۹) دلائل ابو نعیم میں حضرت عائشہ رض سے مردی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں اور آپ جب تک علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا سو میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا اسے طبرانی نے اوسط میں بھی بیان کیا ہے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے آثار صحت خود صفات پر نمایاں ہیں۔

(۲۰) مذکوہ المصانع میں مسلم سے برداشت وائلہ بن الائشع رض بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے (ابراهیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس اعمال کی اولاد کو منتخب کیا) اور اس اعمال کی اولاد میں سے کنانہ کو اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے بھی کو۔ اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں خاندان ”مگر“ نسب اور اپنی ذات کے حوالے سے سب سے افضل ہوں۔ (اور یہ اللہ کا فضل ہے میں غیر نہیں کرتا) اسی طرح کا مضمون بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رض سے بھی مردی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر پامور فرمایا تو حضرت اس اعمال علیہ السلام کو ان کے ساتھ شریک کیا تب تعمیر کعبہ کے وقت دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ”اے ہمارے رب ہماری مزدوری قبول فرماؤ اور ہماری نسل میں وہ امت مسلمہ جو خیر الامم ہے پیدا فرماؤ اور ہماری ہی نسل میں سے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبووث

فرما۔ سو اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کا خانوادہ صرف حضور مسیح پیغمبر کے لئے چن لیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے ان کا خانوادہ اور ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد دوسرے انبیاء کے لئے خاص فرمادی گئی یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ چنانچہ بعد ازاں تمام انبیاء میں میں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل صرف ایک اور سب سے آخری اور افضل بنی حضرت محمد مسیح پیغمبر کے لئے مخصوص کر دی گئی۔

(۲۱) قاضی عیاض ماکلوی نے شیخ ابو عبد اللہ بن احمد العدلؑ کی سند کے ساتھ حضرت عبدالعزیز بن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔

حضرت مسیح پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلقون کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھی قسم میں رکھا۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے: "ایک گروہ اصحاب اليمین کا ہے اور دوسرا گروہ اصحاب الشمال کا" پس میں اصحاب اليمین سے ہوں اور ان میں بھی سب سے بہتر ہوں پھر ان دونوں کے تین تین حصے کے اور مجھے تیرے بہتر حصے میں رکھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "ان میں سے ایک حصہ اصحاب اليمین ہے دوسرا حصہ اصحاب المشتملہ اور تیرا السابقون کا ہے" میں السابقون میں سے ہوں اور ان میں سب سے بہتر پھر ان تیوں کے قبیلے بنائے گئے تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے: "اور ہم نے تمیں قبیلوں اور برادریوں میں اس لئے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متین ہی سب سے باعزت ہوں گے"

تو میں اللہ کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے زیادہ معزز ہوں اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا پھر قبائل کے گھر بنائے گئے اور مجھے بہتر گھر میں رکھا جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے: "اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ بنی مسیح پیغمبر کے گھروں سے ہر ناپاکی دور فرمادے اور تمیں پاک کر کے تھمرا کر دے" اس آیتِ قرآنی سے حضور مسیح پیغمبر کے پوری نسب مبارک اور آپ کے قبیلہ و خاندان کا شرف تمام انساب و قبائل پر ثابت ہوتا

ہے۔ بے شک مخلوق کو سب شرف اور بزرگیاں بھی حضور ﷺ کے توسل سے عطا کی گئیں ہیں۔

(۲۲) حضرت عباس ہبیث نے بصورت نعمت حضور ﷺ کی شان اقدس میں کچھ اشعار کے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔

ا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام اپنے اپنے جسموں کو (جنت میں) پتوں سے ڈھانپ رہے تھے۔ اس وقت سے بہت پہلے آپ ﷺ مرت و شادمانی کے ساتھ ذکر اللہ میں مصروف تھے۔

ii۔ (ان کے جنت سے زمین پر اترائے جانے کے بعد) آپ بھی ان کے ہمراہ زمین پر تشریف لے آئے جبکہ آپ ﷺ نہ تو قبل ازیں بشری صورت میں تھے اور نہ ہی گوشٹ اور علق کی حالت میں۔

iii۔ بشریت کے ظہور کے بعد آپ احسن صورت میں محفوظ مقامات کے اندر ایک سوار کی طرح جلوہ فرمار ہے۔ گھوڑے کو گام لگا کر تیار رکھا ہوا تھا جس سے اگلی منزل پر پہنچتے اور پچھلی روپوشن ہو جاتی۔

۱۷۔ آپ ﷺ کا ہر میکن (ہر قسم کی آسودگی اور خطرات سے) محفوظ تھا۔ جیسے خندقون اور بلند چنانوں سے گھرا ہوا ہو۔ لیکن آپ ان مقامات میں بھی اس کائنات کی زبان بن کر رہے۔

۱۸۔ آپ ﷺ مقدس اصلاب سے پاکیزہ ارجام کی جانب منتقل ہوتے رہے۔ جب ایک دور گذر تاؤ دوسرا شروع ہو جاتا۔

۱۹۔ جب آپ (سیدہ آمنہ کی گود میں) بزم آراء جہاں ہوئے تو تشریف آوری کے باعث زمین پر نور ہو گئی اور فضا میں جگ کا اٹھیں۔

۲۰۔ ہم آپ کی ضیاء پاشی اور نور انبیت کے صدقے ہی تواریخ ہدایت پر گامزن ہیں۔

۲۱۔ یا رسول اللہ ﷺ! آپ ہی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نمٹنے کی ہوئی اور آپ ہی آگ سے ان کے بچاؤ کا سبب بنے جب کہ آگ بھڑک کر وہی تھی =

(۲۳) حضور ﷺ کے نسب مبارک کے حوالے سے روایات میں آیا ہے کہ آپ کا نور اقدس جس پشت میں منتقل ہوتا اس کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ حتیٰ کہ الموهوب میں ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بدن سے منک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ ﷺ کا نور مبارک ان کی پیشانی میں خوب چمکتا تھا اور اس نور کی ایسی عظمت تھی کہ بادشاہ بھی بیت زدہ ہو جاتے اور آپ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

(۲۴) حافظ ابو سعید نیشاپوریؓ نے ابو بکر بن الی مریمؓ اور سعید بن عمرو الانصاریؓ کے ذریعے سے حضرت کعب الاحرارؓ سے روایت کیا ہے کہ جب حضور ﷺ کا نور مبارک حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حطیم میں سو گئے۔ اٹھے تو آنکھ میں سرمہ اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا انہیں بڑی حیرت ہوئی ان کے والد انہیں قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے چنانچہ انہوں نے پسلانکا حقد سے کیا پھر ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نصیب میں نور محمدی ﷺ آیا اور ان کے بطن سے حضرت عبد اللہ متولہؓ ہو۔

(۲۵) حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہ بھی مقول ہے کہ جب قریش میں نقطہ ہوتا تھا تو وہ عبد المطلب کا ساتھ پکڑ کر جبل شبیر پر لے جاتے اور ان کے واسطے اور ویلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس نور محمدی ﷺ کی برکت سے باران رحمت سے نوازتا تھا۔ (کذافی الموهوب)

(۲۶) کتب سیر و فضائل میں بکثرت مردی ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ کے اصحاب نیل نے غانہ کعبہ کو مندم کرنے کے لئے مکہ معلمہ پر چڑھائی کی تو حضرت عبد المطلب پندرہ آدمیوں کو ساتھ لے کر جبل شبیر پر چڑھے۔ اس وقت آپ کی پیشانی سے نور مبارک۔ اس طرح چکا کہ اس کی شعاعیں غانہ کعبہ پر پڑیں۔ آپ نے قریش سے کہا ہے فکر ہو جاؤ اس طرح نور کے چمنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر والے پکڑ کر لے گئے تھے آپ ان کی واپسی کے لئے ابرہہ کے پاس گئے تو وہ حضرت عبد المطلب کی نورانی شکل اور پیشانی میں چمکتے ہوئے نور کی عظمتُ

ہبہت سے مرعوب ہو گیا اور نور اجتنب سے نیچے اتر آیا آپ کی بے حد عظیم کی اور آپ کو اوپر بٹھایا اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا ہاتھی اس نور کے سامنے سجدے میں گر گیا جیسا کہ المواہب، سیرت طیبہ اور دیگر کتب میں مقول ہے اور اللہ نے اس ہاتھی کو زبان دی اور اس نے نور محمدی ملینہ کی خدمت میں سلام عرض کیا جسے دوسرے لوگ بھی سمجھ گئے۔

(۲۷) ابو نعیم، خراطی اور ابن عساکر بطریق عطاء حضرت عبد اللہ ابن عباس ہیئتہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب اپنے فرزند حضرت عبد اللہ کو لے کر ایک کاہنہ کے پاس سے گذرے جو تورات، انجیل اور کتب سابقہ کی عالد تھی۔ اس کا نام فاطمہ شمعیہ تھا۔ اس نے حضرت عبد اللہ کے چہرے (بیشانی) پر نور محمدی چکلتا ہوا دیکھا تو حضرت عبد اللہ کو نکاح کی دعوت دی مگر آپ نے انکار کر دیا، پھر مذکور ہے کہ آپ کا نکاح جب حضرت آمنہ سے ہو گیا اور نور محمدی ان کے بطن میں منتقل ہو گیا تو ایک روز حضرت عبد اللہ اسی فاطمہ نامی کاہنہ کے پاس سے دوبارہ گذرے، اس نے آپ کی طرف توجہ تک نہ کی، حضرت عبد اللہ نے پوچھا کیا بات ہے، اسی وقت مجھے دعوت نکاح دیتی تھی اور آج توجہ تک نہیں کرتی اس خاتون نے جواب دیا جس نور کی خاطر میں آپ کی طرف راغب ہوتی تھی وہ کوئی اور خوش نصیب لے گئی اب مجھے آپ سے شادی کی حاجت نہیں۔ میری خواہش تھی کہ وہ نور مبارک میرے نصیب میں ہو تا مگر اب ایسا ممکن نہیں رہا وہ نور آپ سے جدا ہو چکا ہے۔

(۲۸) مروی ہے کہ جس رات حضور ملینہ کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا وہ جمعہ کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھوٹا دیا گیا۔ اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی۔ آگاہ ہو جاؤ وہ نور جو ایک محفوظ اور غنی خزانہ تھا جس نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ ملینہ نے متولد ہونا تھا وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا جہاں اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہو گی اور وہ لوگوں کے لئے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا اور حضرت کعب الاجبار ہیٹھ کی روایت میں حضرت آمنہ کا نام بھی آیا ہے اور ساتھ منادی نے یہ بھی کہا آمنہ تمیس

مبارک ہو تمیں مبارک ہو۔

(۲۹) مردی ہے کہ جب آپ کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش نقط سالی میں بھلا تھے۔ وہ فوراً ختم ہو گئی زمین ہری بھری ہو گئی درخت سر بزرو شد اب ہو گئے ہر طرف سے اتنا پھل اور بزیاس آنے لگیں اور تاریخ میں اس سال کا نام کشاورگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔

(۳۰) سیرت ابن ہشام میں ابن احراق سے مردی ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ میرے بطن میں تشریف لائے تو مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ اس امت کے سردار اور ایک روایت کے الفاظ ہیں تمام انسانوں کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں اور جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد ﷺ رکھنا اور حضرت عباس سے مردی ہے کہ حضرت آمنہ نے فرمایا جب آپ کو میرے پیٹ میں چھٹا ممینہ تھا تو مجھے خواب میں کما گیا تو خیر العالمین سے حاملہ ہے جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد ﷺ رکھنا اور اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا۔

(۳۱) حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ جس رات حضور ﷺ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں باواز بلند بول پڑے رب کعبہ کی قسم آج رسول اللہ ﷺ اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں اور ایک روایت میں یہ کہ نہ انسانی دی مبارک ہو ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں اور اس رات مک کے ہر گھر میں نور کی چک دکھائی دی۔

(۳۲) ابن ہشام ابو زکریا یحییٰ بن عائد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں نوماہ یا بعض روایات کے مطابق اس کے لگ بھگ عرصہ تک رہے اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا حمل اس جتنا آسان اور ہلکا اور بابرکت نہیں دیکھا اور سیرت طیبہ میں ہے کہ آپ اس دوران اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔

(۳۳) ابھی آپ ﷺ والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں دو ماہ کے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبد اللہ کا انتقال ہو گیا اور ابن عباس " سے مردی ہے کہ ان کی وفات پر

فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا باری تعالیٰ تیرا محبوب یتیم ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کا حافظ و ناصر میں خود ہوں۔

(۳۵) حضرت آمنہ سے مروی ہے کہ جب حضور ﷺ کی ولادت مقدس کا وقت قریب آیا تو حسبِ معقول مجھ پر کیفیت طاری ہوئی پھر مجھے اچانک یوں محسوس ہوا کہ سفید پرندے کے پر کی طرح کسی روشن چیز نے میرے دل پر سُج کیا ہو۔ جس سے درد فوراً جاتا رہا پھر مجھے جنت کا سفید مشروب پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا۔ پھر مجھے ایک عظیم نور نے گھیر لیا پھر میں نے خوبصورت طویل القامت عورتوں کو دیکھا مجھے تجب ہوا اور میں نے پوچھا تم میرے پاس کہاں سے آئی ہو تو انہوں نے کہا ہم آسیہ (فرعون کی یہوی) جو حضرت موی پر ایمان لے آئی تھیں) اور مریم بنت عمران ہیں اور ہمارے ساتھ یہ سب جنتی حوریں ہیں پھر میں نے زمین سے آسمان تک سفید سی روشنی دیکھی۔ پھر میں نے فضامیں ایسے مرد دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی صراحیاں تھیں پھر میں نے سفید جنتی چڑیوں کو دیکھا جن کی چونچیں زمرد کی اور پریا قوت کے تھے، وہ میرے کمرے پر سایہ گلن ہو گئیں پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب سب روشن ہو گئے اسی وقت میں نے تین عظیم الشان جھنڈے دیکھے جو نصب کر دیئے گئے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر پس اسی مشاہدہ کی حالت میں اچانک حضور ﷺ میرے بطن سے باہر تشریف لے آئے اور سارا گھر نور ہی نور بن گیا اور آپ سکرار ہے تھے پھر آپ سجدے میں گر گئے اس وقت آپ کی حالت تضرع اور گریہ وزاری کی ہو گئی آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کی تھی (گویا اللہ کی توحید کی شاداد دے رہے تھے) پھر اچانک آسمان کی طرف سے سفید بادل نمودار ہوا اس نے حضور ﷺ کو ڈھانپ لیا اور ایک منادی کی ندا بلند ہوئی کہ حضرت محمد ﷺ کو مشارق و مغارب اور بحر و بر میں پھراو تاکہ سب انسان و جنم ملانکہ اور چرند و پرند الغرض ہر شے ان کی صورت اور اوصاف کو پہچان لے پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل کھل گیا اور آپ دوبارہ نمودار ہوئے اس وقت میں نے آپ کی زیارت کی تو آپ کا جسم اقدس چودھویں کے چاند کی طرح چک رہا تھا۔ اور اس سے تازہ کستوری کی خوشبو کے

مختل پھوٹ رہے تھے اس وقت غیب سے تین افراد نمودار ہوئے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی ایک کے ہاتھ میں زمرد کا طشت، تھا اور ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کے چادر تھی۔ اس صراحی کے (جھتی) پانی سے آپ کو عسل دیا گیا، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں مرگائی گئی، جو اسی ریشم میں لپی ہوئی تھی اور پھر اسی چادر میں لپیٹ کر لٹا دیا گیا، آپ کو پیدائشی طور پر سرمه ڈالا ہوا تھا، تاف بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے، حضرت ابن عباس نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔

(یہ سارا مضمون المواهب اللدنیہ، الخصائص الکبریٰ، السیرۃ العلیہ، الوفا، الانوار المحمدیہ وغیرہ میں ہے اور انہوں نے اسے ابو فیض، ابو حیان، خطیب بغدادی ابن سعد، طبرانی، یہیقی، میشانپوری، حافظ ابو بکر اور امام زرکشی وغیرہم سے روایت کیا ہے)

(۳۶) محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی۔ اس میں عطاء اور ابن عباس بھی ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں :۔

جب نبی اکرم ﷺ میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ ﷺ کے ساتھ ایک نور نکلا۔ جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو گیا۔ پھر آپ نے خاک کی مٹھی بھری اور آمان کی طرف سراخا کر دیکھا اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اس نور سے آپ کی والدہ ماجدہ نے شام کے محل دیکھے۔ (اسے احمد بزار، طبرانی، حاکم اور یہیقی نے عرباض بن ساریہ سے روایت کیا ہے اور ابن حجر ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے) اور اسی طرح ابو فیض نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور وہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ ﷺ پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں پر آئے۔ میں حضرت آمنہ کی خدمت میں اس وقت موجود تھی۔ آپ ﷺ کی آواز نکلی تو میں نے ایک کنٹے والے کو سننا کہ کہتا ہے۔ رحمک اللہ "اے محمد ﷺ آپ پر اللہ کی رحمت ہو" شفا کہتی ہے کہ "مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی یہاں تک کہ میں نے بھی روم کے محلات دیکھے"

(۳۷) عثمان ابی العاص اپنی والدہ ام عثمان شفیقہ سے جن کا نام فاطمہ بنت عبد اللہ ہے روایت کرتے ہیں ”جب آپ ملٹیپلیکیٹ کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ ملٹیپلیکیٹ کے تولد کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین کے اس قدر نزدیک آگئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑیں گے (اس کو بھی نے روایت کیا ہے)

(۳۸) بھتی اور ابو نعیم نے حضرت حسان بن ثابت اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں سات آٹھ برس کا تھا اور دیکھی سی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یا کیک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود آ جاؤ۔ سوب جمع ہو گئے اور کہنے لگے مجھ کو کیا ہوا۔ کہنے لگے کہ احمد ملٹیپلیکیٹ کا وہ ستارہ آج شب میں طلوع ہو گیا۔ جس ساعت میں آپ ملٹیپلیکیٹ پیدا ہونے والے تھے وہ ساعت اسی شب میں تھی (کذافی الموهوب)

سیرہ ابنہ شام میں یہ بھی ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور ملٹیپلیکیٹ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حسان بن ثابت اللہ عنہ کی کیا عمر تھی۔ انہوں نے کہا کہ سانچھ سال کی اور حضور ۵۳ برس کی عمر مبارک میں تشریف لائے ہیں تو اس حساب سے حسان بن ثابت اللہ عنہ (حضور سے سات سال عمر میں زیادہ ہوئے) انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا سات سال کی عمر میں ساختا۔ یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے۔ جبکہ حضور ملٹیپلیکیٹ کی ولادت مکہ مغفرہ میں ہوئی مگر یہود شریٹر (مدینہ) اس لئے آکر آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان پھرست فرمائے کہ اسی شہر کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ انہیں حضور ملٹیپلیکیٹ کی ولادت کا شدت سے انتظار تھا کیونکہ انہیں امید تھی کہ شاید حضور ملٹیپلیکیٹ کی ولادت بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگی۔ انہیں وقت ولادت کی علامات معلوم تھیں جس کی بنا پر اس یہودی (عالم) نے حضور ملٹیپلیکیٹ کی ولادت باسعادت کی صبح اہل مدینہ کو جمع کر کے شو ہمایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک یہودی مکہ میں اپنے کی گام سے آیا تھا۔ سو جس شب حضور ملٹیپلیکیٹ پیدا ہوئے۔ اس نے کما اے گروہ

قریش کیا تم میں آج کی شب کوئی پچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔  
کہنے لگا دیکھو آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہونا تھا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک ثالثی مرنبوت ہے وہ آج رات پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ قریش نے اس کے بعد تحقیق کی تو خبر طی کہ عبد اللہ بن عبد المطلب اللّٰهُ تَعَالٰى کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے وہ یہودی آپ کی والدہ کے پاس آیا اور مرنبوت والی ثالثی جو دونوں شانوں کے درمیان تھی دکھانے کے لئے کہا انہوں نے آپ کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا جب اس یہودی نے ثالثی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گرپڑا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے گروہ قریش سن لو واللہ یہ تم پر ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ مشرق و مغرب سے اس کی خبر شائع ہو گی (رواہ الحاکم)

اس کو یعقوب بن سفیان نے اسناد حسن سے روایت کیا ہے اور اس کا ہدایت فتح الباری میں امام عسقلانی نے بھی کیا ہے۔

(۳۹) یعنی، ابو نعیم، خراطیلی اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلوات اللہ علیہ و آله و سلم کے وقت ولادت ظہور پذیر ہونے والے عجائب میں سے یہ بھی ہے کہ کسری کے محل میں زلزلہ آگیا اور اس کے چودہ کنارے نوٹ کر گرپڑے، بحیرہ طبیہ دفتارِ خلک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ بھی اچاک بجھ گیا جو ایک ہزار سال سے مسلسل جل رہا تھا اور کبھی نہ بختا تھا اور بعض روایتوں میں منقول ہے کہ حضرت عبد المطلب اللّٰهُ تَعَالٰى جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے نے دیکھا کہ سارا صحن کعبہ اچاک روشن ہو گیا اور چند بت منہ کے بل نیچے گرپڑے (اس سے وہ سمجھ گئے کہ حضرت آمنہ کے ہاں حضور صلوات اللہ علیہ و آله و سلم کا تولد ہو گیا ہے)

(۴۰) مروی ہے کہ ابو لب کی باندی ثوبیہ بھی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ اس نے آپ کو دودھ پلایا سو ثوبیہ نے آپ کی ولادت اور اپنے شرف رضاعت کی خوشخبری ابو لب کو سنائی تو اس نے خوش ہو کر دو انکلیوں (انگشت شادت اور درمیانی انگل) سے اشارہ کرتے ہوئے ثوبیہ کو آزاد کر دیا، سمجھ بخاری میں ہے کہ مرنے کے بعد اسے حضرت عباس اللّٰهُ تَعَالٰى نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ

تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جنم کے سخت عذاب میں گرفتار ہوں مگر جب پیر کی رات (جو حضور ﷺ کی شب ولادت تھی) آتی ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور ان دو انگلیوں کو چوتا ہوں جن کے ذریعے حضور ﷺ کی ولادت کی خوشی میں اشارہ کر کے ثوبیہ کو آزاد کیا تھا، ان میں سے محمد اپنی نکتائے ہے جسے پی کر پیاس بجھاتا ہوں۔

ف: آئندہ وحدین اور اکابر علماء امت بیان کرتے ہیں کہ جب ایک کافر کو حضور ﷺ کی ولادت مبارک پر خوشی کے اظہار میں کئے گئے عمل پر عذاب میں تخفیف مل گئی ہے جب کہ کفار کا کوئی عمل آخرت میں باعث اجر نہیں ہوتا، یہ محض حضور ﷺ کے خصائص اور برکات میں سے ہے تو اہل ایمان و محبت اگر حضور ﷺ کے میلاد مبارک کی خوشی منائیں گے اور اس میں اعمال و صدقات اور قلبی سرور کے اظہار کا اہتمام کریں گے تو آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہو گا؟

حضور ﷺ کی ولادت با سعادت قدماء کے نزدیک زیادہ معروف اور مختار قول کے مطابق بروز پیر تاریخ ۱۲ ربیع الاول عام الفیل، مطابق ۲۲ اپریل ۱۷۵ عیسوی مطابق کم جیٹھے ۲۶ بکری بعد طلوع صبح صادق، قبل طلوع آفتاب ہوئی۔ بقول قاضی سلمان منصور پوری اس دن مکہ مغفرمہ میں صبح صادق کا طلوع ۴ نجع کر ۲۰ منٹ پر ہوا تھا اور ایک جیٹھے کی تاریخ کو شروع ہوئے ۱۳ جنینے ۱۶ منٹ گزر چکے تھے۔ عرب میں آج کل جود و سر ا نظام الادعیات موجود ہے اس کے مطابق اس دن صبح صادق کا طلوع ۹ نجع کر ۷ منٹ پر ہوا تھا۔

## باب دوم

حضور علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا بیان



ترمذی میں حضرت علی رضوی سے مردی ہے کہ

”آپ ﷺ قد مبارک میں نہ زیادہ لبے تھے اور نہ پست قد بلکہ میانہ  
قامت تھے۔ آپ کے گیوس مبارک نہ بالکل پھردار تھے نہ بالکل سیدھے بلکہ قدرے  
مکفریا لے تھے۔ جسم اطہر میں فربہ پن نہ تھا۔ چرہ انور بالکل گول نہ تھا بلکہ اس میں کسی  
قدر گولاںی تھی۔ رنگ پچکدار سفید سرفی ماکل تھا۔ پشممان مقدس نمایت سیاہ تھیں اور  
پلکیں دراز تھیں۔ جوڑوں کی ہڈیاں جیسی تھیں۔ دونوں شانوں کی درمیانی جگہ  
پر گوشت تھی۔ آپ ﷺ کے بدن اقدس پر زیادہ بال نہ تھے۔ سینہ اقدس سے ناف  
مارک تک بالوں کی پتلی لکیر تھی۔ آپ ﷺ کے ہاتھ اور پاؤں پر گوشت تھے آپ  
جب چلتے تو قدموں کو وقت کے ساتھ اٹھاتے۔ ایسے لگتا کہ بلندی سے نیچے کی طرف اتر  
رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے بدن کو پھیر کر توجہ فرماتے۔  
دونوں شانوں کے درمیان مرنبوت تھی۔ آپ ﷺ خاتم الانبیاء تھے۔ حضور ﷺ  
کا قلب اطہر سب سے زیادہ تھی تھا۔ کلام مبارک سب سے زیادہ سچا تھا۔ طبیعت مقدس  
سب سے زیادہ نرم تھی۔ نسب شریف سب سے زیادہ اعلیٰ تھا۔ جو شخص آپ ﷺ کو  
اچاک دیکھتا تو آپ کی شخصی وجاہت اور غیر معمولی حسن کی باعث مرعوب اور ہیبت زده  
ہو جاتا اور جو آپ ﷺ کی صحبت میں رہتا آپ ﷺ سے بے پناہ محبت کرنے لگتا۔  
حضرت علی رضوی ﷺ آپ ﷺ کی تعریف و نعت بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ میں نے  
نہ پہلے کوئی شخص حضور ﷺ جیسا کامل، حسین، خوشنما اور دلنواز دیکھا تھا نہ آپ  
ﷺ کے بعد آج تک دیکھا ہے“

سیدنا امام حسن مجتبی رض اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی ہالہ رض سے روایت کرتے ہیں۔

حضور ملکہ عظیم المرتبت اور بار عب تھے۔ چرہ اقدس جود ہویں کے چاند کی طرح چلتا تھا۔ قد مبارک متوسط قد، والے سے کسی قدر طویل تھا لیکن زیادہ طویل والے سے نبتابست تھا۔ سر اقدس اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک قدرے ثم کھائے ہوئے تھے۔ سر کے بالوں میں بہولت مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے ورنہ مانگ نکلنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ آپ ملکہ عظیم کے بال مبارک کانوں کی لو سے تجاوز نہ کرتے، رنگ چمکدار، پیشانی کشادہ، ابر و خدار، باریک اور گنجان تھے۔ ابر و مبارک ملے ہوئے نہیں تھے۔ دونوں کے درمیان ایک مبارک رگ تھی جو حالت غصہ میں ابھر جاتی، بنی مبارک مائل ہے بلندی تھی اور اس پر بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ حسن چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفس زیادہ بلند نہیں۔ داڑھی مبارک گنجان تھی۔ آنکھ مبارک کی پتلی خوب سیاہ تھی، رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے۔ دھن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ دندان مبارک باریک آبدار تھے۔ ان سے سانس کے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکھر تھی گردن مبارک اتنی خوبصورت اور باریک تھی جیسے تصویر میں موتی کو تراشائی گیا ہو اور رنگ اور صفائی میں چاندی کی طرح سفید اور چمکدار تھی اور اعضاء پُر گوشت اور معتدل تھے پیش اور سینہ مبارک ہموار تھے لیکن سینہ اقدس فراخ اور قدڑے ابھرنا ہوا تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں توی تھیں، جو حصہ بدنه کپڑوں سے باہر رہتا و شن تھا۔ ناف اور سینہ کے درمیان ایک لکھر کی طرح بالوں کی دھاری تھی، سینہ اقدس اور بطن مبارک بالوں سے غالی تھے۔ البتہ بازوؤں، کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصہ پر کچھ بال تھے، کلائیاں دراز تھیں، اور بھیلیاں فراخ تھیں۔ نیز بھیلیاں اور دونوں قدم پُر گوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تاب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تکوے گرے اور قدم ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان سے فوراً ڈھلک جاتا۔ جب آپ ملکہ عظیم چلتے تو قوت سے قدم

اٹھاتے مگر تو اضع کے ساتھ چلتے زمین پر قدم آہستہ پڑتائے کہ زور سے۔ آپ ﷺ سبک رفتار تھے اور قدم ذرا کشادہ رکھتے۔ چھوٹے چھوٹے قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ جب آپ ﷺ چلتے تو یوں محسوس ہوتا گوا بلنڈ جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو مکمل متوجہ ہوتے۔ آپ ﷺ کی نظر پاک اکثر نیچی اور جھلکی رہتی۔ گوش چشم سے دیکھنا عموماً آپ ﷺ کی عادت شریفہ تھی۔ یعنی غایت حیا کی وجہ سے آنکھ سے بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلتے وقت اپنے صحابہ "کو آگے کر دیتے۔ سلام دینے میں خود ابتداء فرماتے۔ آپ ﷺ کا ہنسنا صرف تمیم ہوتا اور دندان مبارک ایسے ظاہر ہوتے ہیں جیسے بارش کے سفید چکدار اولے ہوں۔

حضرت ام سعیدؑ اور حضرت حلیمه سعدؓ یہ بیان فرماتی ہیں۔

آپ ﷺ بوقت سکوت حد درج متین اور سرایا وقار دکھائی دیتے جب گفتگو فرماتے تو رخ انور پر شکافگی پھیل جاتی۔ آپ ﷺ دور سے ذی وجاهت اور بار عب دکھائی دیتے جبکہ نزدیک سے کمال درج حسین اور نرم خو۔

حضرت حلیمه سعدؓ یہ "مکہ مکرمہ میں پہلی مرتبہ آپ ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں۔ کہ جب میں حاضر ہوئی تو آپ ﷺ سوئے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ کا صحن و جمال دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی۔ لیکن حسن پر کشش کی وجہ سے میں آپ ﷺ کے قریب آئی۔ پھر میں نے آپ ﷺ کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھا آپ نے مسکراتے ہوئے اپنی مبارک آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا آپ ﷺ کی مقدس آنکھوں سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں جس کی روشنی آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ آپ کے قد زیب کے اعجاز حسن کی نسبت فرماتی ہیں کہ :-

نبی ﷺ نہ ہی زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی کوتاہ قد بلکہ آپ ﷺ کا قد مبارک میانہ تھا۔ جب کسی طویل القامت کے ساتھ مل کر چلتے تو ان سے بلند نظر آتے اور بسا اوقات دو بلند قامت آدمیوں کے درمیان چلتے تو ان سے بلند تر نظر آتے لیکن

دیکھنے والا حیران رہ جاتا کہ جب وہ جدا ہوتے تو وہ دراز قد اور آپ ملینہ تھیں کا قدم انور میانہ دکھائی دیتا۔ یعنی دوسروں کے مقابل بلند دکھائی دیتے لیکن تنامعتل اور میانہ قدم۔ حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ آپ ساتھ چلنے والے سے بلند قامت دکھائی دیتے تھے الوفا میں حضرت انس بن مالک رض سے مردی ہے کہ نبی اکرم ملینہ کے رنگ مبارک میں ایسی چمک اور آب و تاب تھی کہ اس میں چاندی کی طرح سفیدی اور سونے کی طرح سحری جھلک تھی گویا رنگ نہ بالکل گندم گوں تھا اور نہ بالکل سفید، سینہ مبارک چمکدار موتویوں کی طرح شفاف تھا میں نے حضور ملینہ کے کف مبارک سے زیادہ نرم اور ملائم کوئی ریشم نہیں چھووا اور حضور ملینہ کی خوبصورتی سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں سوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رض کا رشاد گرامی ہے کہ نبی خدا ملینہ کا رنگ مبارک سفید تھا اور یوں لگتا تھا کہ گویا آپ چاندی سے بنائے گئے ہیں۔

حضرت علی الرضا رض سے منقول ہے کہ جبیب خدا ملینہ کا رنگ مبارک سفید تھا۔ جس پر سرفی جھلتی تھی جیسے چاندی پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو یعنی بظاہر سرفی ماکل تھا مگر اس سے انوار پھونتے نظر آتے تھے۔

حضرت کعب بن مالک رض فرماتے ہیں کہ خوشی کے وقت حضور ملینہ کے چہرہ انور سے نور کی شعاعیں پھونٹنے لگتی تھیں اور چہرہ اقدس یوں لگتا تھا جیسے چاند کا مکڑا ہے اور ہم آپ کی حالت سرور کو اس سے پہچان جاتے تھے (بخاری و مسلم)۔ حضرت جابر بن سرہ رض فرماتے ہیں ایک رات چاند پورے جو بن پر تھا اور ادھر حضور ملینہ بھی تشریف فرماتے۔ اس وقت حضور ملینہ سرخ دھاری دار چادر میں لمبسوں تھے اس رات کبھی میں رسول اللہ ملینہ کے حسن طاعت پر نظر ڈالتا تھا اور کبھی چمکتے ہوئے چاند پر۔ پس حضور ملینہ چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔

(ترمذی و دار می)

حضرت انس بن مالک رض سے مردی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھوئی بسمانی حسن کے لحاظ سے یوں معلوم ہوتے تھے گویا چاندی سے ڈھالے گئے

ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رض سے روایت ہے کہ حبیب خدا ملکہ چرہ اقدس کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور حمیم و جیل اور رنگت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نور انی پڑکتا ہے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رض سے روایت ہے کہ رسول اکرم ملکہ کا چرہ اور چودھویں کے پانچ سالے حلقة اور دائرہ کی مانند نظر آتا تھا۔ محمد بن عمار فرماتے ہیں کہ میں نے ربیع بنت معوذ سے عرض کیا کہ رسول معظم ملکہ کا حلیہ مبارک مجھے بیان فرمائے تو نوانسوں نے فرمایا اے بیٹے اگر تو آپ ملکہ کو دیکھتا تو تجھے یوں معلوم ہوتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رض سے مردی ہے۔

”آنحضرت ملکہ کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے چہرہ انور کی پچک و دمک اور ضیاء اور نورانیت سورج کی ضیاء و نورانیت پر غالب آجائی اور جب کبھی چراغ کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ کی ضیاء میں چراغ کے نور پر غالب آجائیں“

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رض سے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پیدا مبارک چہرہ انور پر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آبدار موئی ہوں اور خوشبو کے لحاظ سے وہ غالص کستوری سے زیادہ پاکیزہ اور منک والا ہوتا۔

حضرت علی الرضا رض سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم ملکہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری معاونت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آنا اور ایک کھلے منہ والی بوتل اور درخت کی ایک چھوٹی سی لکڑی ہمراہ لانا۔ حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ آپ نے اس لکڑی کے ساتھ اپنی کلاں سے پینہ پوچھنا شروع فرمایا اور بوتل میں جمع فرمائے گئے حتیٰ کہ وہ بھر گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور گھر والوں سے کہنا جب خوشبو لگانے کا ارادہ ہو تو اس لکڑی کو بوتل میں ڈبو کر بدن پر لگا کر ان کے لئے عظیم خوشبو ثابت ہوگی۔ جب اس گھر والے اس خوشبو کو بدن پر

لگتے تو سب اہل مدینہ اس خوشبو کو سوگھنے آتے بلکہ اس گھر والوں کا نام ہی "خوشبو والے لوگ" پڑا۔

عثمان بن عبد الملک روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے ماہوں نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی اور وہ جنگ حسین میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ سرور دو عالم ملائیکہ کی گردان مبارک صفائی اور سفیدی کے لحاظ سے چاندی کی صرائی کی مانند نصیس اور حسین لگتی تھی۔ حضرت ام ہانی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میری نظر جب بھی سید عالم ملائیکہ کے بطن اقدس پر پڑی تو ملامت اور سفیدی کے لحاظ سے مجھے تباہ رکھئے ہوئے اور اقیاد آئے۔

حضرت مخرش کعبی " سے مروی ہے کہ سید کونیں ملائیکہ نے جعرانہ سے رات کے وقت عمرہ فرمایا اور احرام باندھا تو میں نے آپ کی پیٹھ مبارک کو دیکھا گویا کہ وہ چاندی پکھلا کر ڈھالی گئی ہے۔

حضرت ہند بن ابی ہالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ "آپ ملائیکہ کا جسم اطراف سراپا روشنی اور حسن کا پیکر تھا"۔

حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں۔ کہ آپ ملائیکہ کی بارگاہ اقدس میں سیاہ رنگ کی چادر پیش کی گئی۔ آپ ملائیکہ نے اسے زیب تن فرمایا اور مجھے مخاطب ہو کر فرمایا عائشہ " یہ چادر کیسی لگتی ہے؟ میں نے عرض کیا: " بت ہی خوب آپ ملائیکہ کے حسن کی سفیدی نے اس کی سیاہی کو اور اس کی سیاہی نے آپ ملائیکہ کی سفیدی کو دو بالا کر دیا ہے "۔

الغرض اسی طرح کے بہت سے شامل متفق حدیثوں میں ان سب حضرات سے وارد ہوئے ہیں۔ حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت براء بن عازب، حضرت عائشہ، حضرت ابو حیفہ، حضرت جابر بن سمرة، حضرت ام معبد، حضرت ابن عباس، حضرت معرض بن معیقب، حضرت ابوالطفیل، حضرت عد ابن خالد، حضرت خریم بن فاتک، حضرت حکیم بن حزام (رضی اللہ عنہم) وغیرہ ہم پس ان سب حضرات نے روایت کیا کہ رسول اللہ ملائیکہ کا رنگ مبارک چمکتا ہوا تھا۔ پتلی نمایت سیاہ تھی۔ آنکھیں

بڑی اور ان میں سرخ دوڑے تھے۔ مژگاں دراز تھیں۔ دونوں ابراؤں کے درمیان  
قد رے کشادگی تھی۔ ابر و خمار تھے۔ بینی بلند تھی۔ داندان مبارک میں کچھ رینخیں  
تھیں۔ (بالکل اوپر تلے چڑھے ہوئے نہ تھے چہرہ مبارک گول تھا جیسے چاند کا مکلا ریش  
بارک گنجان تھی کہ سینہ مبارک کو بھر دیتی تھی شکم اور سینہ ہموار تھا سینہ چوڑا تھا  
دونوں شانے کلاں تھے۔ استخوان بخاری تھیں۔ دونوں کلائیں بازو اور اسفل بدن  
(ساق وغیرہ) بھرے ہوئے تھے۔ دونوں کف دست اور قدم کشادہ تھے۔ سینہ سے ناف  
تک بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ قد مبارک میانہ تھا نہ تو بہت زیادہ دراز اور نہ بہت  
کوتاہ اور رفتار میں کوئی آپ کے ساتھ نہ رہ سکتا تھا (یعنی رفتار میں ایک گونہ تیزی تھی)  
آپ کا قدم زیباق درے درازی کی طرف نسبت کیا جاتا تھا (یعنی طویل تو نہ تھے  
مگر دیکھنے میں قدا و نچا معلوم ہوتا تھا) بال قدرے بل دار تھے۔ جب ہنستے ہوئے دنداں  
بارک ظاہر ہوتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے بجلی کی روشنی نمودار ہوئی ہے یا جیسے بارش  
کے اولے ہوتے ہیں۔ جب آپ کلام فرماتے تو سامنے کے دانتوں کے بیچ میں سے ایک  
نور سانکھتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔

گردن نہایت خوبصورت تھی چہرہ مبارک پھولا ہوانہ تھا اور نہ بالکل گول  
تھا۔ گوشت ہلکا تھا اور دوسری روایتوں میں ہے کہ آنکھوں میں سفیدی کے ساتھ سرخی  
تھی جوڑ بند کلاں تھے۔ جب زمین پر پاؤں کھٹھٹے تو پوپیاں کھٹکتے ہیں زیادہ گہرائی نہیں تھی  
اور ترمذی نے اپنے شاکل میں حضرت انس<sup>ؑ</sup> سے روایت کیا ہے کہ ہمارے صحبہ محمد  
مصطفیٰ احمد بختی<sup>رض</sup> کے دونوں کف دست اور دونوں قدم مپر گوشت تھے۔ سر  
بارک کلاں تھا جوڑ کی ہڈیاں بڑی تھیں۔ نہ تو بہت طویل القامت تھے اور نہ کوتاہ  
قامت تھے کہ بدن کا گوشت ایک دوسرے میں دھضا ہوا ہو۔ آپ کے چہرہ مبارک میں  
ایک گونہ گولائی تھی۔ رنگ گورا تھا۔ اس میں سرخی دلکتی تھی۔ سیاہ آنکھیں تھیں  
مژگانیں دراز تھیں۔ شانے کی ہڈیاں اور شانے بڑے تھے۔ بدن مبارک بے موتحا یعنی  
بدن پر بال نہ تھے۔ البتہ سینہ سے ناف مبارک تک بالوں کی باریک دھاری تھی۔ جب  
کسی طرف دیکھنا چاہتے تو پورے پھر کر دیکھتے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میر

نبوت تھی۔ حضرت جابر بن سرہؓ کی روایت میں ہے کہ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ ایذیوں کا گوشہ بکھا۔ آنکھوں میں سرخ ذورے تھے۔ جب آپ کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرمه پڑا ہوا ہے حالانکہ سرمه پڑانہ ہوتا تھا۔ حضرت ابوالفضل یثیمؑ نے بیان کیا ہے کہ آپ میانہ قد تھے۔ آپ کبھی سرخ دھاری دار چادر زیب تن فرماتے تھے۔ شماں ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بست دراز قد تھے اور نہ کوتاہ قامت نہ بالکل سفید اور نہ سانوںے اور موئے مبارک آپ ﷺ کے نہ بالکل خدار نہ بالکل سید ہے بلکہ کچھ مل دار تھے۔ آپ کے سرانور اور ریش مبارک میں سفید بال کل سترہ تھے اور حضرت جابر بن سرہؓ نے فرمایا کہ میں نے مر نبوت کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سرخ اور بالکل معمولی سے ابھرے ہوئے گوشت کی مثل دیکھا۔ حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی زلفوں والا سرخ جوڑا پسند ہوئے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ سیسیں دیکھا یوں لگتا تھا گویا آپ کے چہرہ انور میں آفتاب چل رہا ہے۔ جب آپ منتے تو دیواروں پر چک پڑتی تھی اور اندر ہیری جگہ روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت جابرؓ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ کا چہرہ مبارک مثل تکوار کے شفاف تھا۔ تو انہوں نے کہا ”نمیں“ بلکہ آفتاب مانتاب کے مثل تھا۔

ملا علی قاری ”فرماتے ہیں۔“

”کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ بلاشبہ حضور ﷺ کے وجود گرامی میں ظاہری اور باطنی کمالات ہر شخص سے بڑھ کر ہیں اور اس خوبی کے ساتھ دلیعت کر دیئے گئے ہیں کاظہ ہر اوصاف کا جلال و کمال عظمت باطن کا آئینہ دار بن گیا ہے۔“ (جمع الوسائل، ۱: ۹)

”امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کے لئے حضور ﷺ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود اقدس کو اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے بعد کوئی بھی آپ ﷺ کا مثل نہیں“ (المواهب اللدنیہ حاشیہ علی الشماں الحمدیہ: ۱۳)

امام شاہاب الدین احمد القسطلاني فرماتے ہیں۔

”یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ تکمیل ایمان کے لئے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ آپ ملکیتیہ کے وجود اطہر سے بڑھ کر رب العزت نے کسی کو حسین نہیں بنایا“  
امام عبد الرؤف النادی فرماتے ہیں۔ (المواهب اللہ نیہ، ۲۳۸: ۱)

”تمام علماء نے تصریح کر دی ہے کہ اس وقت تک کسی انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ آپ ملکیتیہ کے وجود اقدس میں پائے جانے والے محسن کسی دوسرے میں نہیں ہیں“

(شرح الشماکل بر حاشیہ جمع الوسائل، ۱۸: ۱)  
حافظ بن حجر کی ”فرماتے ہیں۔“

”اے مسلمان تیرے اوپر واجب ہے کہ تو اس اعتقاد کو حضور ملکیتیہ پر ایمان کامل کا تقاضا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور ملکیتیہ کے جسم مبارک کو حسین و تکمیل اور کامل بنایا ہے اس طرح آپ ملکیتیہ سے پہلے یا بعد میں کسی شخص کو بھی حسین نہیں بنایا گیا“ (جو اہر الجمار، ۲: ۲۹)

مشہور مفسر قرآن امام قرطبی ”فرماتے ہیں۔“

”ہم پر حضور ملکیتیہ کا حسن و جمال کامل طور پر ظاہر نہیں کیا گیا اگر آپ ملکیتیہ کا تمام حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں تاب نظارہ نہ لاسکتیں“  
(زر قانی علی المواهب، ۲۸۰۳)

شیخ عبد الحق محدث دہلوی ”فرماتے ہیں کہ۔“

”حضور ملکیتیہ کے جمال باکمال کو دیکھنے سے آنکھیں چندھیا جاتیں۔ آپ کا جسم اطہر چاند اور سورج کی طرح روشن تھا اگر آپ لباس بشری میں نہ ہوتے تو آپ کی شرف نظر بھر کر دیکھنا اور آپ کے حسن کامل کا ادراک ناممکن ہو جاتا“

(معارج النبوت، ۱: ۱۲۹)

ملک علی قاری ”علماء محققین کے حوالے سے فرماتے ہیں۔“

محبوب خدا ملئکہ کا حسن و جمال اور کمال پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے روشن جمال و کمال کو صحابہ پر مخفی رکھا۔ کیونکہ اگر وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فُکن ہوتا تو آپ کے چہرہ اقدس کی طرف نظر انہا بھی دشوار ہو جاتا۔  
(جمع الوسائل، ۲: ۷)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ”فرماتے ہیں۔

میرے والد مجدد شاہ عبد الرحیم ”کو حضور نبی اکرم ملئکہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ملئکہ زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور بعض لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے لیکن کیا سبب ہے کہ آپ ملئکہ کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتیں تھیں اس پر نبی اکرم ملئکہ نے فرمایا میرے اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا جمال لوگوں سے مخفی رکھا اگر وہ کماحتہ آشکار ہو جاتا تو لوگوں پر محیت و بے خودی کا عالم اس سے کہیں بڑھ کر طاری ہوتا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا کرتا تھا۔“  
(الدرالشیخ: ۷)

شیخ ابو محمد عبد الجلیل القبری ”شعب الایمان میں لکھتے ہیں کہ۔

حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن آپ کے حسن کی خیرات ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن و جمال کو ہبہت وقار کے پردوں کے ساتھ ڈھانپانہ ہوتا تو یہ دنیوی آنکھیں آپ کا مشاہدہ ہتی نہ کرپاتیں“  
(مطالع المرات: ۳۹۳)

”حضور اکرم ملئکہ کے وصال کے بعد حضرت عمر“ اور حضرت علی ”حضرت اویں قرنی“ سے ملاقات کے لئے ان کے آبائی وطن قرن پہنچے۔ آپ ملئکہ کا فرمان سناء اثنائے گفتگو حضرت اویں قرنی ”نے حضرت عمر“ اور حضرت علی ”سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی محر م موجودات ملئکہ کا دیدار بھی کیا ہے۔ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو مسکرا کر کہنے لگے۔ تم نے تو رسول اللہ ملئکہ کے حسن کا محض ایک پرتو دیکھا ہے۔“  
(جوہر البخار، ۳: ۵۶)

حضرت شیخ عبد العزیز دباغ فرماتے ہیں کہ  
”اگر آپ کے سورکاں کو عرش عظیم پر ظاہر کر دیا جاتا تو پھر جاتا اسی طرح  
اگر مخلوقات کو جمع کر کے ان پر آپ کا نور اقدس آفتاب کیا جاتا تو وہ بمبوت ہو کر رہ  
جائیں“

(الایرین: ۲۷۲)

سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟  
شیخ عبد الحق محدث دہلوی ”اسی بات کی تثاندی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ۔

”تمام انبیاء ملجم السلام حق تعالیٰ کے اماء ذاتیہ کے فیض کا پرتو ہیں اولیاء  
اماء صفاتیہ کا اور تمام مخلوق صفات فعلیہ کا لیکن سید الانبیاء ذات حق کے بلا واسطہ فیض کا  
پرتو ہیں اور صرف آپ ہی کی ذات میں حق تعالیٰ کی شان کا ظبور بالذات ہے“  
(مدارج النبوت: ۲۰۹)

اسی مسئلے پر امام قسطلانی فرماتے ہیں۔

”جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی ذات اقدس اور شان اعلیٰ کی تخلیق کا  
ارادہ کیا تو اس نے اس ذات کے انوار صورت سے بلا واسطہ حقیقت محمدی کو ظاہر فرمایا  
اور پھر اس کے فیض سے تمام علوم عالم پست وبالا کو پیدا فرمایا۔  
(المواہب اللددینیہ، ۱: ۵)

اسی لئے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا۔

اے ابو بکر والذی بعثتی بالحق لم	یا ابا بکر والذی بعثتی بالحق لم
نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا	یا علمتی حقیقتہ غیر رہی
میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی	(مطالع المرات: ۱۲۹)
نہیں جانتا“	



## باب سوم

حضور ملی علیہ السلام کے

طرز معاشرت اور دنیوی تقاضوں کا بیان



حضرت امام حسن ہبھی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن تک حضرت حسین ہبھی سے معمولات نبوی کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کی پھر جب میں نے ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پسلے والد گرامی سے رسول اللہ ﷺ کا طرز معاشرت اور نشست و برخاست وغیرہ سب کچھ پوچھ چکے ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی نہیں چھوڑی۔ غرض امام حسین ہبھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے جناب رسول اللہ ﷺ کے گھر میں تشریف رکھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ گھر میں اپنے ذاتی ضروریات (کھانا اور آرام کرنا وغیرہ) کے لئے تشریف لے جانے میں بھی (منجانب اللہ) باذون تھے۔ سو جب آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے اس وقت کو تین حصوں میں تقسیم فرماتے۔

- ۱۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے یعنی نماز، نوافل، ذکر و فکر
- ۲۔ ایک حصہ اپنے گھروالوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے یعنی ان گے معاملات کو نپانا اور ان کی خوشی و غمی میں شرکت
- ۳۔ ایک حصہ اپنے جسمانی حقوق کے لئے

پھر اپنے اس آخری حصہ کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیتے۔ اس میں سے بھی بہت سا وقت امت کے کام میں صرف فرمادیتے اور اس حصہ وقت کو خاص اصحاب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام لگادیتے یعنی اس حصہ میں عام لوگ تو نہیں آسکتے تھے مگر خواص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے۔ اس طرح سے عام لوگ بھی ان منافع میں شریک ہو جاتے آپ ﷺ لوگوں سے کسی چیز کا اخخارہ فرماتے یعنی نہ احکام دینیہ کا اور نہ متعال دینوی کا، بلکہ ہر طرح کا نفع بلا دریغ۔

پہنچاتے۔ اس حصہ وقت میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اہل علم و ادفن کو اور دن پر ترجیح دیتے کہ ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے اور اس وقت کو ان لوگوں پر بقدر ان کی دینی ذمہ داریوں کے تقسیم فرماتے۔ سوان میں سے کسی کا ایک معاملہ ہوتا کسی کے دو اور کسی کے زیادہ سوان کی ضروریات کے مطابق انہیں وقت دیتے اور ان کو اتنے حسین انداز میں بنتاتے کہ جس میں ان کی اپنی اور بقیدہ امت کی تربیت اور اصلاح کا سلامان ہو۔ وہ معاملات عرض کرتے جاتے اور آپ ملٹیپل ان کے مناسب حال امور کی ہدایات دیتے اور آپ یہ فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک نہ پہنچا سکے تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی صاحب اختیار تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ حضور ملٹیپل کی خدمت میں خیر ہی کی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اس کے خلاف دوسری باتیں کو قبول نہ فرماتے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے ضروریات و منافع کے سوا دوسری لائیعنی اور بے فائدہ باتوں کی ساعت بھی نہ فرماتے تھے۔ حضرت علی ہبیثہ سے مروی ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس محض زیارت یا اپنے ایسے مسائل کے حل کے لئے آتے کچھ نہ کچھ کھارہ اپنی ہو جاتے یعنی آپ نفع علمی کے علاوہ کچھ نہ کچھ کھلاتے بھی تھے۔

امام حسین ہبیثہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ کے (گھر سے) باہر تشریف رکھنے کے حالات، بھی مجھ سے بیان کیجئے کہ اس وقت میں آپ کیا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو لائیں باتوں سے محفوظ رکھتے تھے اور لوگوں کے دل خوش رکھتے تھے۔ ان میں پریشانی نہ ہونے دیتے تھے۔ ہر قوم کے مدھنا کی آبرو کرتے تھے اور ایسے آدمی کو اس قوم پر سردار مقرر فرمادیتے تھے۔ لوگوں کو نقصان دہ امور سے پریز رکھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ اور ان کے شرستے اپنا بھی بچاؤ رکھتے تھے مگر کسی شخص سے کشادہ روئی اور خوش خلقی میں کمی نہ کرتے تھے اور اپنے ملنے والوں کے احوال سے بھیشہ باخبر رہتے تھے۔ لوگوں میں جو حادث و واقعات ہوتے تھے آپ ان کے بارے میں پوچھتے رہتے تاکہ مظلوم کی مدد اور ظالموں کا انداد ہو سکے ہر اچھی بات کی حسین و تقدیم اور بری بات کی حوصلہ لٹکنی و تغیر فرماتے۔ آپ

کا ہر معمول نہایت اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس میں بے نظمی نہیں ہوتی تھی کہ کبھی کسی طرح کر لیا کبھی کسی طرح لوگوں کی تعلیم میں مصلحت سے غفلت نہ فرماتے ہو جے اس احتمال کے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بعض خود دین سے غافل ہو جائیں گے یا بعض امور دین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہو کر دین سے آتا جائیں گی۔ ہر وقت ہر کام کے لئے آپ کے ہاں ایک نظم تھا۔ حق سے کبھی کوتاہی نہ فرماتے اور ناحق کی طرف کبھی تجاذب کر کے نہ جاتے۔ لوگوں میں سے آپ کے مقرب زیادہ متقدِ لوگ ہوتے۔ سب میں افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور پر سب کا خیر خواہ ہوتا اور سب سے برا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی غنواری و اعانت بخوبی کر لے پھر میں نے آپ کی مجلس کے بارے میں پوچھا کہ اس میں آپ کا کیا معمول تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا بیٹھنا اور امتحانا سب ذکر الٰہی کے ساتھ ہوتا اور اپنے لئے کوئی جگہ بیٹھنے کی ایسی معین نہ فرماتے کہ خواہ خواہ اسی جگہ بیٹھیں اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو اخحادیں اور دوسروں کو بھی اس طرح جگہ معین کرنے سے منع فرماتے اور جب کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ مجلس ختم ہوتی وہاں ہی بیٹھ جانا پرند فرماتے اور دوسروں کو بھی یہی حکم فرماتے اور اپنے ہم مجلس میں سے ہر شخص کو اس کا حصہ اپنے خطاب اور توجہ سے عنايت فرماتے یعنی سب پر جدا جدا متوجہ ہو کر خطاب فرماتے یہاں تک کہ آپ کا ہر جلیس یوں سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ آپ کو کسی کی خاطر عزیز نہیں۔ جو شخص خود نہ ہٹ جاتا آپ اس کے ساتھ متعلق رہتے۔ جو شخص آپ سے کچھ حاجت لینا چاہتا تو بغیر اس کے کہ اس کی حاجت پوری فرماتے یا نری سے جواب دیتے، اس کو وہ اپس نہ کرتے۔ آپ کی کشادہ روئی اور خوش خونی تمام لوگوں کے لئے عام تھی گویا آپ ان سب کے باپ تھے اور تمام آپ کے نزدیک حق میں مساوی تھے البتہ تقویٰ کی وجہ سے متفاوت تھے یعنی تقویٰ کی زیادتی سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے تھے اور باقی امور میں سب باہم تساوی تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حق میں سب آپ کے نزدیک بر ابر تھے۔

آپ کی مجلس حلم، علم، حیا، صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی اور اس میں

نبوت تھی۔ حضرت جابر بن سرہؓ کی روایت میں ہے کہ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ ایزوں کا گوشت بلکا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ذور تھے۔ جب آپ کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرمه پڑا ہوا ہے حالانکہ سرمه پڑا نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابوالفضل یثیؑ نے بیان کیا ہے کہ آپ میانہ قد تھے۔ آپ کبھی سرخ دھاری دار چادر زیب تن فرماتے تھے۔ شائل ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بہت دراز قد تھے اور نہ کوتاہ قامت نہ بالکل سفید اور نہ سافنے اور موئے ملٹھیؑ نے بہت دراز قد تھے اور نہ کوتاہ قامت نہ بالکل سفید اور نہ سافنے اور مونے ملٹھیؑ کے نہ بالکل خدار نہ بالکل سید ہے بلکہ کچھ مل دار تھے۔ آپ کے سرانور اور ریش مبارک میں سفید بال کل سترہ تھے اور حضرت جابر بن سرہؓ نے فرمایا کہ میں نے مرنبوت کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سرخ اور بالکل معمولی سے ابھرے ہوئے گوشت کی مثل دیکھا۔ حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی زلفوں والا سرخ جو زاپنے ہوئے رسول اللہ ملٹھیؑ سے زیادہ حسیں نہیں دیکھا یوں لگتا تھا گویا آپ کے چہرہ انور میں آفاتاب چل رہا ہے۔ جب آپ منستے تو دیواروں پر چک پڑتی تھی اور انہیں جگہ روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت جابرؓ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ کا چہرہ مبارک مثل تلوار کے شفاف تھا۔ تو انہوں نے کہا ”نہیں“ بلکہ آفاتاب ماہتاب کے مثل تھا۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں۔

”کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ بلاشبہ حضور ملٹھیؑ کے وجود گرامی میں ظاہری اور باطنی کمالات ہر شخص سے بڑھ کر ہیں اور اس خوبی کے ساتھ دویعت کر دیئے گئے ہیں کہ ظاہری اوصاف کا جلال و کمال عظمت باطن کا آئینہ دار بن گیا ہے۔“ (جمع الوسائل، ۱: ۹۶)

”امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انہوں کے لئے حضور ملٹھیؑ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود اقدس کو اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ آپ ملٹھیؑ اور آپ ملٹھیؑ کے بعد کوئی بھی آپ ملٹھیؑ کا مثل نہیں“ (المواهب اللدنیہ حاشیہ علی الشماکل، المدحہ: ۱۳)

سے پہلے شخص کی بات تھی یعنی کسی کے کلام کی بے قدری نہ کی جاتی۔ جس بات سے سب ہنتے، آپ بھی مسکرا دیتے جس سے سب تعجب کرتے، آپ بھی تعجب فرماتے (یعنی ہر معاملہ میں اپنے بیلوں کے ساتھ شریک رہتے) اور آداب سے ناواقف آدمی کی بد تیزی کی گفتگو پر چل فرماتے اور فرمایا کرتے کہ جب کسی صاحب حاجت کو طلب حاجت میں دیکھو تو اس کی اعانت کرو۔ کسی کی بات کو نہ کاشتے یہاں تک کہ وہ حد سے بیرون ہے لگتا اس وقت اس کی بات ختم کر دیتے یا اٹھ کر ہے ہو جانے سے بات کو قطع فرمادیتے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کا سکوت کس کیفیت کا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا سکوت چار امور پر مشتمل تھا۔ حلم، بیدار مغزی، اندازے کی رعایت اور فکر۔ اندازے کی رعایت یہ تھی کہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور ان کی عرض سننے میں برادری فرماتے تھے اور فکر باقی اور قافی ہیں فرماتے تھے یعنی دنیا کے خواہ اور عقینی کے بقاء کو سوچا کرتے اور حلم آپ کا صبر یعنی ضبط کے ساتھ جمع کر دیا گیا تھا۔ سو آپ کو کوئی چیز ایسی غصباں نہ کر سکتی تھی کہ آپ بے قابو ہو جائیں اور بیدار مغزی آپ کی چار امور کی جامع ہوتی تھی۔ ایک یہ بات کو اختیار کرنا تاکہ اور لوگ آپ کی اتباع کریں اور دوسرے بری بات کو ترک کرنا تاکہ اور لوگ بھی باز رہیں۔ تیرے رائے کو ان امور میں صرف کرنا جن میں آپ کی امت کے لئے مصلحت ہو۔ چوتھے امت کے لئے ان امور کا اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور آخرت کے کاموں کی درستی ہو۔

### بستر مبارک

حضرت عائشہ صدیقہ رض فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور آرام فرمائے کا بستر چڑے کا ہوتا تھا جس میں سمجھو رکے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی بستر کبھی صرف ناٹ کا ہوتا اور کبھی صرف بوریا ہوتا تھا۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ صحابہؓ جب زم بستر بنائے کی درخواست کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ مجھے دنیاوی راحت و آرام سے کیا (واسطہ) میری مثال تو اس راہ گیر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لئے کسی درخت کے سایہ میں بیٹھ گیا ہو اور تھوڑی دیر بیٹھ کر آگے چل دے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت آئیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا بستردیکھا کہ نٹ بچا رکھا ہے۔ انہوں نے واپس جا کر ایک بستر تیار کیا جس کے اندر اون رکھی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے میرے پاس بیجیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اس کو رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں انصاری عورت آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا بستر دیکھ کر بیجیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو واپس کر دے۔ مزید فرمایا کہ مجھے وہ بست اچھا معلوم ہوتا تھا اس لئے دل نہ چاہتا تھا کہ واپس کروں مگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے واپسی پر اصرار فرمایا اور یہ ارشاد کہ واللہ میں اگر چاہوں تو حق تعالیٰ جل شانہ میرے لئے سونے اور چاندی کے پہاڑ تیار کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد پر میں نے اسے واپس کر دیا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم ایک بوریے پر آرام فرمارہے تھے جس کے نشانات حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے بدن اطرپر ظاہر ہو رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یہ قیصرو کسری تو ریشم اور محمل کی گدوں پر سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم اس بورے پر، حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کی رو نے کی بات نہیں ہے ان کے لئے دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت۔ حضرت عمر رضی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ بھی ایک مرتبہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا جس کا مفصل تذکرہ بخاری شریف میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی ایک زوجہ حمودہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا بستر کیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک نٹ بچا جس کو دو ہرا کمر کے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے تو زیادہ نرم ہو جائے گا۔ میں نے ایسے ہی بچھا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے صبح دریافت فرمایا کہ میرے نیچے برات کو کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ وہی روز مرہ کا بستر تھا رات کو اسے چوہرا کر دیا تھا کہ ذرا زم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم

## لئے فرمایا کہ اسے پہلے ہی حال میں رہنے دو، اس کی نزدیکی رات کو مجھے تہجد میں مانع ہو۔ معاشر

حضرت عائشہ صدیقہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی سیر ہو کر متواتر تین دن کھانا نہیں کھایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ کبھی متواتر دو دن سیر ہو کر جو کی روٹی تناول نہیں فرمائی حالانکہ اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس قدر عطا فرماتا جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی آل نے گندم کی روٹی آخری وقت تک سیر شکم ہو کر نہیں کھائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رض سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ترک میں دینار و درہم اور بھیڑ، اونٹ وغیرہ نہیں چھوڑے تھے۔ حضرت عمرو بن الحارث رض کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنے جنگی تھیمار، ایک خپڑا اور تھوڑی سی زمین کے سوا کچھ اور ترک نہیں چھوڑا تھا۔ یہ چیزوں بھی صدقے کے طور پر لوگوں میں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رض فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کے وصال کے وقت میرے گھر میں تھوڑے جو تھے جنیں میں نے ایک کھلیا میں ڈالا ہوا تھا ان کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا بیٹک مجھ سے یہ پیش کی گئی کہ میرے لئے کہ کمر مدد کی وادی سونے کی بنا دی جائے تو میں عرض گزار ہوا کہ اے رب ایوں نہیں بلکہ مجھے ایک روز بھوکار کہ اور دوسری روز شکم سیر فرماتا کہ جب میں بھوکار ہوں تو اس روز تیرے حضور گریہ وزاری کروں اور تجھے پکاروں اور جس روز شکم سیر ہو جاؤں تو تیری حمد و شاہیان کروں۔

دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لئے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ ﷺ چاہیں تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور آپ ﷺ جمال بھی تشریف فرماؤں یہ آپ ﷺ کے ساتھ رہے۔ آپ ﷺ نے تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا پھر فرمایا کہ جبرائیل! ابے شک دنیا اس کا گھر ہے جس کا

کوئی نہ کانہ نہ ہوا اور اس کا مال ہے جس کے پلے زاد آخرت نہ ہوا اور اسے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ حضرت جبراًئیل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ﷺ

اللہ نے آپ ﷺ کو حقیقت آشنائی کے مقام پر فائز کر کھا ہے۔

حضرت عائشہ رض نے فرمایا ہے کہ ہم ایسے آل محمد ﷺ ہیں کہ بعض اوقات پورا مین گزر جاتا لیکن ہمارے گھروں میں آگ جلانے کی نوبت ہی نہ آتی بلکہ بھجو روں اور پانی پر گزر اوقات ہوتی رہتی۔

### حضور ﷺ کے ملبوسات

آپ کا لباس مبارک چادر، لگلی، کرتا اور عمامہ ہوتا تھا۔ سفید کپڑے کو بست پسند فرماتے۔ مخطوط چادر کو بھی پسند فرماتے، عمامہ کے نیچے نوپی بھی پسند کبھی بغیر عمامہ کے نوپی پسند اور صرف عمامہ پر بھی الکتفا فرماتے اور شملہ کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا۔ اور آپ نے قبایحی پہننا ہے۔ آپ کی چادر کا طول چھ باتھ اور عرض تین باتھ اور ایک باشت ہوتا تھا اور تہبند کا طول چار باتھ ایک باشت اور عرض دو باتھ ایک باشت ہوتا تھا اور چادر بولٹ دار اور سادہ دونوں طرح کی پسند ہے۔ سیاہ کپڑا بھی پہننا ہے۔

شاہ روم نے آپ کی خدمت میں ایک پوتیں جس میں ریشم کی سنجاف لگی تھی بھیجا تھا آپ نے وہ بھی پہننا تھا۔ پاجامہ آپ نے خریدا ہے اور بعض روایات میں پہننا بھی آیا ہے آپ کے پاس چادریں مزرا اور ایک کھیس سیاہ ایک کھیس سرخ دھاری اور ایک کھیس بالوں کا یعنی کمل تھا۔ اور کرتہ بالعوم سوت کا ہوتا تھا جس کے دامن اور آستینیں دراز نہ تھیں۔ آپ نے کتان اور صوف بھی پہننا ہے۔ مگر زیادہ استعمال سوتی کپڑے کا فرماتے تھے اور آپ نے بعض اوقات تیزی کپڑا بھی استعمال فرمایا ہے۔

### حضور ﷺ کی سواریاں

آپ کے ذاتی استعمال میں سات گھوڑے، چھ خچڑ اور سواری کے قابل تین اونٹ تھے اور ہر سواری کا نام اس کے رنگ یا کسی اور خوبی کی بنا پر رکھا ہوا تھا۔ آپ کی ایک اوپنی کا نام ”عبدباء“ تھا یہی وہ اوپنی تھی کہ تیز رفتاری میں

کوئی اونٹ اس سے آگے نہ جا سکتا تھا کہا گیا ہے کہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد اس نے صد مہین میں کھانا پینا چھوڑ دیا تھا یہاں تک کہ اسی صدمہ میں مر گئی۔

بعض کتب میں آپ کی سواریوں کی تعداد زیادہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پیش تالیس اور نشیان دودھ دینے والی تھیں اور سو بکریاں تھیں۔

### حضور ﷺ کے خدام

کی صحابہ کرام کو آپ کا ذاتی خدمت گار ہونے کا شرف بھی نصیب ہوا ہے۔

۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :- مددوں میں حضور ﷺ کے سب سے زیادہ مشور خادم تھے۔ یہ آپ کے خادم خاص تھے۔ حضور ﷺ کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے وقت سے آپ کے وصال تک دس سال تک برابر آپ کے خدمت گزار رہے۔ سفر و حضر ہر حال نہ آپ کی خدمت کرتے رہے۔ سو سے اوپر عمر بانے کے بعد وفات پائی۔

۲۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :- حضور ﷺ کے معاوک بردار اور نعل بردار تھے۔ جب آخر حضرت ﷺ کیسی تشریف لے جانے کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کو نعلیں پہناتے اور جب آپ بیٹھ جاتے تو ہر دو چیزیں آپ کے کھڑے ہونے تک اپنے ہاتھوں میں سنبھالے رکھتے۔ وہ لذی لے کر آپ کے آگے آگے چلتے جب تک آپ جھرہ شریف میں داخل نہ ہوتے۔

۳۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنمی رضی اللہ عنہ :- حضور ﷺ کے خمیر کے نگران تھے۔ سفر میں اسے ہانک کر لے چلتے تھے۔

۴۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ :- جن کی والدہ سعد بن شعبہ تھیں۔ ان کی کنیت ابو اسامہ تھی۔ یہ آخر حضرت ﷺ کے غلاموں میں زیادہ مشور ہوئے اور حضور ﷺ کے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ بعد ازاں حضور ﷺ نے انہیں اپنا متبیٰ (منہ بولا میٹا) بنایا تھا۔

۵۔ شتران :- وہ اس لقب سے مشور تھے کہا گیا ہے کہ ان کا نام " صالح" تھا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بھی غلام تھے انہوں نے حدیبیہ سے واپسی پر

- آنحضرت ملکہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ پھر حضور ملکہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔
- ۶۔ حضرت ابو رافع ہنفی : - ان کے نام میں اختلاف ہے بعض نے ان کا نام اسلم بتایا ہے بعض نے ابراہیم اور بعض نے صالح۔ حضور ملکہ نے انہیں بھی آزاد کر دیا تھا۔
- ۷۔ حضرت سلمان فارسی ہنفی : - ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے یہ اصفہان کے باشندے تھے۔ عمر بھر آپ کے خادم خاص رہے اور حضور ملکہ کی خصوصی شفتوں سے فیض یاب ہوئے۔ حضور ملکہ کے گھروں میں بھی ان کا آنا جانا تھا۔
- ۸۔ سفینہ ہنفی : - یہ فارسی تھے اور مدینہ کے قریب بطن نخلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ ان کا نام مہران اور بعض کے نزدیک رومان تھا۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی بعد میں حضور ملکہ نے ان کا نام سفینہ رکھ دیا تھا۔
- ۹۔ ابو کبشہ : - ان کا نام سلیمان ہے۔ آنحضرت نے انہیں خرید کر آزاد فرمادیا تھا۔ یہ آپ کے خدمت گاروں میں سے تھے۔
- ۱۰۔ رویقح ابو مویہ : - یہ قبیلہ مزینہ کے مولدین میں سے تھے۔ حضور ملکہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد فرمایا تھا۔
- ۱۱۔ رباح اسود ہنفی : - یہ کبھی کبھی آنحضرت ملکہ کی مؤذنی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔
- ۱۲۔ فضالہ : - یہ یمن کے باشندے تھے پھر شام میں آباد ہو گئے تھے۔
- ۱۳۔ مدعم : - سیاہ قام غلام تھے۔ حضرت رفاع بن زیدہ جذائی ہنفی نے انہیں حضور ملکہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ پھر انہیں حضور ملکہ نے آزاد فرمادیا۔
- ۱۴۔ سیار ہنفی : - یہ چڑواہے تھے اور حضور ملکہ کے خدام میں شامل تھے۔
- ۱۵۔ مہران ہنفی : - کہا گیا ہے کہ یہ آل الی طالب کے غلام تھے۔ ان کا شمار بھی آنحضرت ملکہ کے خدام میں ہوتا ہے۔
- ۱۶۔ ماور : - یہ خصی تھے انہیں سلطان موقوس نے آنحضرت ملکہ کی خدمت میں بطور ہبہ یہ بھیجا تھا۔

۱۔ حضرت بلاں بنی اشیٰ : - حضور ﷺ کے امور خانہ داری کے مختص تھے۔

۱۸۔ توپان جو شہر	۱۹۔ اینہ
۱۹۔ فلوج	۲۰۔ عبیدہ
۲۰۔ طہمان	۲۱۔ کیمان
۲۱۔ ذکوان	۲۲۔ مروان
۲۲۔ ابو	۲۳۔ حسین
۲۳۔ وادہ	۲۴۔ ابو عیسیٰ
۲۴۔ سدر	۲۵۔

اعضوں نے یہ چاروں نام ایک ہی شخص کے بیان کئے ہیں۔

## عورتوں میں آپ کی خادماں میں

۲۱۔ حضرت امۃ اللہ بنت زریبہ	۲۲۔ حضرت خوالہ
۲۲۔ حضرت خوارہ	۲۳۔ حضرت ماریہ
۲۳۔ حضرت ماریہ	۲۴۔ حضرت ماریہ
۲۴۔ حضرت ماریہ	۲۵۔ حضرت ام ایمن
۲۵۔ حضرت امیمہ	۲۶۔ حضرت سلمہ
۲۶۔ حضرت سیرس	۲۷۔ حضرت رافعہ
۲۷۔ حضرت رافعہ	۲۸۔ حضرت میونہ بنت سعد
۲۸۔ حضرت میونہ بنت سعد	۲۹۔ حضرت ام رفیعہ
۲۹۔ حضرت ام رفیعہ	۳۰۔ حضرت ام ضمیرہ
۳۰۔ حضرت ام ضمیرہ	۳۱۔ حضرت امیمہ
۳۱۔ حضرت امیمہ	۳۲۔ رضوی
۳۲۔ رضوی	۳۳۔ ریشمہ
۳۳۔ ریشمہ	۳۴۔ ریحانہ

## حضور ﷺ کے محافظین اور پریدار

قاضی عیاض فرماتے ہیں ہم سے قاضی شید ابو علی مدفن اور حافظ ابو بکر محمد بن عبد اللہ المغافری ”نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ

اللَّهُ أَعْلَمْ نے فرمایا کہ "وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" کی آیت مبارکہ کے نازل ہوئے تک صحابہ کرام "نبی اکرم ﷺ کی باقاعدہ حفاظت کیا کرتے تھے۔

آپ کا حافظتی پرہ دینے والی جماعت میں کافی اکابر صحابہ کے نام شامل ہیں مثلاً

۱- حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ : - آپ کو حضور ﷺ کے حافظ اور پرہ دلوں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جگ بدروں میں دن کے وقت آپ نے حضور ﷺ کا پرہ دلوں آنحضرت ﷺ کو اپنی جھونپڑی میں نیز آگئی تو حضرت ابو بکرؓ علیٰ تکوار ہاتھ میں لئے ہوئے آپ کا پرہ دیتے رہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ غزوہ بدرو کے موقع پر حضور ابو بکرؓ کے ہمراہ حضرت سعد بن معاذؓ بھی جھونپڑی میں موجود تھے اور دونوں مل کر پرہ دے رہے تھے۔

۲- حضرت سعد بن معاذؓ رضی اللہ عنہ : - انہوں نے بھی جگ بدرو کی شب حضور ﷺ کا پرہ دیا تھا۔

۳- حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ : - آپ نے غزوہ احد میں حضور ﷺ کا پرہ دیا تھا۔

۴- حضرت زبیر بن عوف رضی اللہ عنہ : - آپ نے غزوہ خندق میں پرہ دیا تھا۔

۵- حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ : - آپ نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر پرہ دیا تھا۔

۶- حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ : - آپ نے خبر جاتے ہوئے اثناء سفر میں رات کو حضور ﷺ کا پرہ دیا تھا۔

۷- حضرت ملالؓ رضی اللہ عنہ : -

۸- حضرت سعد بن ابی و قاصؓ رضی اللہ عنہ : -

۹- حضرت ذکوان بن عبد قیسؓ رضی اللہ عنہ : -

تینوں نے بمقام وادی قری میں آپ کا پرہ دیا تھا۔

۱۰- ابن ابی مرشد غنوی رضی اللہ عنہ : -

آپ نے معزکہ جنین کی شب حضور ﷺ کا پرہ دیا تھا۔ جب کہ آنحضرت ﷺ نے خود فرمایا تھا کہ کوئی شخص ہے جو آن رات ہمارا پرہ دے سکے؟ اس وقت ابن ابی مرشد غنوی رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں پرہ دوں گا۔ اس پر

آنحضرت ﷺ نے ان کی حق میں دعائے خیر فرمائی۔

۱۱۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات کی حفاظت پر مامور تھے۔

۱۲۔ حضرت اسد بن اسید ساعدی رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ کی ازواج مطہرات کے نگران کا رہ تھے۔

۱۳۔ حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ یہ حضور ﷺ کی سربراک کے محافظ تھے۔

۱۸۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ حضور ﷺ کا پرہ دہے رہے تھے (ان کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی تھے) تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارک نازل ہوئی ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (اللہ تعالیٰ خود لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا) پس آپ نے کاشانہ، اندس سے سربراک باہر نکلا اور فرمایا اے لوگوں اپس پلے جاؤ اس لئے کہ حق تعالیٰ نے میری حفاظت کا زمہ خود لے لیا ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے آخری عمر تک آپ کی حفاظت خود فرمائی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امر صرف حضور ﷺ کے خصائص میں سے تھا۔ ایسا وعدہ اور شرف کسی اور کے لئے نہیں اب ہر کوئی سابق سنت مبارک کے مطابق اسباب اختیار کرنے کا ممکن ہے۔

حضور ﷺ کا اسلحہ اور ہتھیار

حضور ﷺ کے پاس ۹ تکواریں، سات زریں، پانچ کمانیں، تین ڈھالیں، دو بڑے نیزے، پانچ چھوٹے نیزے اور دو خود (لوہے کی بنی ہوئی سرکی نوپیاں) تھیں۔  
حضور ﷺ کے تمام ہتھیاروں کے علیحدہ علیحدہ نام تھے۔

حضور ﷺ کے کاتبین

آپ کے مشی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید، حضرت عامر بن فہیرو، حضرت عمرو بن العاص، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبد اللہ بن ارقم، حضرت ثابت بن قیس بن سماں، حضرت حنظله بن رجع اسدی، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبد اللہ بن رواح، حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن سعید، حضرت عاصی،

حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم تھے۔  
ان کا کام کتابت و حج کے علاوہ دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے نام خط  
و کتابت اور دیگر احکام و فرمانیں نبوی کا نقل کرنا بھی تھا۔

### حضور ملیٹیپلٹر کے شعراء

- ۱۔ حضرت حسان بن ثابت رض
- ۲۔ حضرت عبد اللہ بن رواحہ رض
- ۳۔ حضرت کعب بن مالک رض

آنحضرت ملیٹیپلٹر کے شعراء تھے۔ یہ سب شعراء حضور ملیٹیپلٹر کے نعمت  
خوان اور شناؤ تھے۔ آپ ملیٹیپلٹر کی حمایت اور دشمن سے مدافعت میں بھی شرکت کرتے تھے  
اور کفار قریش کی نذمت کیا کرتے تھے۔

بعض اوقات حضور ملیٹیپلٹر ان کی محفل نعمت و شاخود سماع فرماتے تھے اور  
ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ اس لئے حضور ملیٹیپلٹر کی نعمت کہنا اور سننا سنت  
قرار دیا گیا ہے۔



## باب چارم

حضور ﷺ کے خصائص مبارک کا بیان



اس باب میں حضور ﷺ کے ان احوال و مکالات اور ظاہری و باطنی دونوں طرح کے خصائص بیان کئے گئے ہیں۔ جو صرف آپؐ کے خصائص ہیں۔ ان سے دیگر انبیاء کرام میں سے کسی اور کو نہیں نواز گیا۔

حضرت انس ﷺ نے فرمایا کہ میں نے کوئی غیر کوئی مشک اور کوئی خوبصورت رسول اللہ ﷺ کی ملک سے زیادہ خوبصوردار نہیں دیکھی۔ آپ ﷺ کی سے مصافحہ کرتے تو پورا پورا دون اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے خوبصوراتی اور کبھی کسی پچھے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوبصورکے سبب دوسرے لڑکوں میں پچھانا جاتا۔

آپ ﷺ ایک بار حضرت انس ﷺ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔

آپ ﷺ کو پیش آیا تو حضرت انس ﷺ کی والدہ ایک شیشی لاکر آپ ﷺ کے پیش کو جمع کرنے لگیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ پیشہ اعلیٰ درجہ کی خوبصورت ہے۔ اس سے ہم ملک حاصل کریں گے۔ امام بن خاری "نے تاریخ کبیر میں حضرت جابر ﷺ سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جس راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ ﷺ کی تلاش میں جاتا تو وہ خوبصور سے پچان لیتا کہ آپ ﷺ اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ امام الحنفی بن راہویہ " نے کہا ہے کہ یہ ملک بغیر خوبصور لگائے خود آپ ﷺ کے بدن مبارک میں قیمتی

ابراہیم بن اسماعیل مزنی " نے حضرت جابر ﷺ سے روایت کی ہے کہ مجھے ایک بار رسول اللہ ﷺ نے اپنے پیچھے سواری پر بھالیا۔ میں نے مہربوت کا بوسر لیا۔ سواس میں سے ملک کے طے آرہے تھے اور مردوی ہے کہ آپ ﷺ جب بیت الخلاء میں جاتے تو زمین چھٹ جاتی اور آپ ﷺ کے مبارک بول و بر از کو نکل جاتی

اور اس جگہ نمایت پاکیزہ خوبیوں آتی تھی حضرت عائشہؓ نے بھی اس طرح روایت کیا ہے۔ اور اسی لئے علماء کرام آپ ﷺ کے بول و برآز کے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ (ابو بکر بن سابق ماکلی اور ابو نفر نے بھی اس کو نقل کیا ہے)

حضرت مالک بن شان ﷺ غزوہ الحرام کے دن آپ کے زخم کا خون مبارک چوں کر پی گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا، اس کو کبھی وزن خی کی آگ نہ چھوئے گی۔ حضرت عبد اللہ بن زید ﷺ نے آپ ﷺ کا خون مبارک جو پچھے لگانے سے نکلا تھا پی لیا تھا اور برک اور آپ کی خادمہ ام ایمن نے آپ کا بول مبارک پی لیا تھا سوان کو ایسا معلوم ہوا جیسا شیرس نیس پانی ہوتا ہے (اسے امام دارقطنیؓ نے بند صحیح روایت کیا ہے)۔

آپ قادر تی مختون ناف بریدہ اور سرمه لگے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت آمنہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو پاک صاف جناک کوئی آلو دی آپ ﷺ کو گلی ہوئی نہ تھی۔

وہب بن منبه کہتے ہیں کہ میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے اور سب میں یہ مضمون پایا ہے کہ پیغمبر ﷺ عقل میں سب سے پر ترجیح رکھتے تھے۔ رائے میں سب سے افضل تھے اور آپ ﷺ تاریکی میں اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہؓ نے روایت کیا ہے اور آپ دور سے ایسا دیکھتے تھے جیسا زدیک سے دیکھتے تھے اور اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے۔ آپ ﷺ نے نجاشی کا جنازہ جب شہ میں دیکھ لیا تھا اس پر نماز پڑھی اسی طرح آپ ﷺ نے بیت المقدس کو کم معرفہ سے دیکھ لیا تھا جب قریش کے سامنے اس کا نقشہ بیان فرمایا (یہ معراج کی صبح و اقدح ہوا تھا) اور جب آپ ﷺ نے مدینہ منورہ میں اپنی مسجد کی تعمیر شروع کی اس وقت خانہ کعبہ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ شریا میں گیارہ ستارے اپنی ہمشمارِ مقدس سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ شان بصارت تھی اور شان سماعت کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک روز حضرت عباسؓ نے آپ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اس بات نے بہت حیران کیا کہ جب آپ بچپن میں اپنے

ہنگمکوڑے میں لینے ہوئے تھے تو چاند آپ ملٹیپل کی انگلیوں کے اشاروں کے ساتھ بلتا تھا (گویا آپ ملٹیپل سے کھیتا تھا)۔ آپ ملٹیپل نے فرمایا میں آپ ملٹیپل کو اس سے زیادہ حرمان کرن بات بتا تاہوں وہ یہ کہ جب میں اپنی والدہ کے بطن میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز بھی سنتا تھا۔

اور جس رات آپ ملٹیپل نے کفار کے مطالبے پر مکہ معمد کے پہاڑ پر چاند کو مجزہ دو ٹکڑے کیا اس وقت بھی چاند ٹکڑے ہونے کا حکم پانے سے پہلے آپ کی انگشت مبارک کے اشارے کے ساتھ ہتھارہا۔

آپ ملٹیپل کو کلمات جامع عطا کئے گئے اور تمام زمین آپ ملٹیپل کے لئے مسجد اور پاک بنائی گئی (یعنی امت کی نماز اور تیم کے لئے) اور آپ ملٹیپل کے غنیمت کو حلال کیا گیا جبکہ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہ تھا اور آپ ملٹیپل کے لئے شفاعت کبریٰ اور مقام محمود مخصوص کیا گیا اور جن و انس اور تمام خلائق کی طرف آپ ملٹیپل کو مبعوث کیا گیا۔ آپ ملٹیپل کو سب سے آخری نبی اور افضل الرسل بنایا گیا۔ آپ ملٹیپل نہ صرف عرب کی سب زبانیں بلکہ تمام دنیا کی زبانیں جانتے تھے۔

آپ ملٹیپل کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ملٹیپل کا نور اقدس ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا اور آپ ملٹیپل کو نبوت سب سے پہلے عطا فرمائی گئی اور بعثت سب سے آخر میں عطا فرمائی گئی۔ تمام انبیاء کرام سے آپ ملٹیپل کی نبوت پر ایمان لانے کا مشاق لیا گیا۔ آپ کو قبر انور سے قیامت کے روز سب سے پہلے اٹھنے والا بنایا گیا۔ آپ کو روز قیامت سب کا شفیع اور تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر گواہ بنایا گیا۔ سب سے پہلے آپ ملٹیپل کو ہی اذن شفاعت ہو گا اور سب سے پہلی شفاعت آپ ملٹیپل ہی کی قبول کی جائے گی۔

آپ ملٹیپل کو تمام اولاد آدم کا سردار بنایا گیا۔ یہ بھی آپ ملٹیپل کے خصائص میں سے ہے کہ آپ ملٹیپل نے یوم میثاق "الست بربکم" کے جواب میں سب سے پہلے "بملی" (جی ہاں تو ہمارا رب ہے) فرمایا۔

آپ ملٹیپل کا اسم گراہی عرش الہی اور جنت میں ہر جگہ لکھا گیا۔ آپ کو جملہ

کائنات کی تخلیق کا مقصد بنایا گیا۔ پہلی تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی تشریف آوری کی بشارات اور آپ ملئیں کے فضائل بیان کئے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کو آپ ملئیں کی برکات سے واضح طور پر نواز آگیا۔

آپ کے شانہ اقدس پر مرنبوت لگائی گئی آپ کو مقام ”قب توسمیں اوادنی“ پر فائز فرما کر شرف معراج سے نواز آگیا۔ آپ ملئیں کو عالم بالا کے جملہ عجائب، ملکوت ارضی و سماوی اور جنت و دوزخ کے احوال پر مطلع فرمایا گیا۔ آپ ملئیں کی آمد سے کہانت منقطع ہو گئی۔ اذان، اقامت، نماز اور ہر ذکر خیر میں اللہ تعالیٰ نے پر ملئیں کا اسم گرامی اپنے اسم مبارک کے ساتھ لازماً شامل فرمایا۔ آپ ملئیں کو ایسی کتاب (قرآن) عطا فرمائی گئی جو یہ شے تغیر و تبدل سے محفوظ رہے گی حتیٰ کہ اس کتاب کو خود ہر لحاظ سے حضور ملئیں کا دامن مجذہ بنادیا گیا۔ نیند سے آپ ملئیں کاوضو مبارک نہ ٹوٹتا تھا۔ آپ ملئیں پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ ملئیں کی امت قیامت کے روز تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہو گی۔ آپ ملئیں کو ساری مخلوق پر افضل بنایا گیا۔ آپ ملئیں کو بشیرت اور نورانیت دونوں کے جملہ کمالات عطا فرمائے گئے۔

قیامت کے روز آپ ملئیں ہی کو لواء الحمد کا اٹھانے والا بنایا گیا۔ اس طرح کہ تمام انبیاء و رسول آپ ملئیں کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ آپ ملئیں کو تمام خزانوں کی چاہیاں عطا فرمائی گئیں۔ آپ ملئیں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مخلوق میں تقییم کرنے والا بنایا گیا۔ آپ ملئیں کو ساری کائنات کے لئے رحمت بنایا گیا۔

سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ملئیں کو شب مراجع اللہ تعالیٰ نے خود جلوہ زیبا سے نواز۔ قیامت کے دن بزرگی اور رحمت کی چاہیاں بھی آپ ملئیں کے دست اقدس میں دی جائیں گی۔ جنت کا دروازہ بھی آپ ملئیں ہی کے لکھناٹنے سے کھلے گا۔ اور آپ ملئیں ہی سب سے پہلے اپنے مبارک قدموں سے اسے شرف یا بفرمائیں گے۔ آپ ملئیں کے پیکر بشیرت کو بھی بے سایہ بنایا گیا۔ آپ کے فیوض

ویرکات کو بعد از وصال بھی ظاہری و باطنی طور پر قیامت تک بلکہ بروز قیامت بھی باقی رکھا گیا۔ اور بعد از وصال بھی جسمانی و روحانی حیات کے باعث آپ مل شہید کے جمل حقوق امت پر اسی طرح قائم رکھے گئے جیسے ظاہری میں تھے اور آپ مل شہید کی امت کو ہمیشہ کے لئے شرک سے محفوظ کر دیا گیا۔

---



---



## باب پنجم

# حضور ﷺ کے خاصیں مبارک کا بیان



## فصل اول

### حضور ﷺ کے عام معمولات اور بودو باش کا بیان

حضور ﷺ نے فرمایا مجھ کو دوسرے لوگوں پر چار چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ سخاوت، شجاعت، قوت مردی اور مقابل پر غلبہ آپ ﷺ بعثت سے قبل بھی اور بعد میں بھی صاحب وجاہت تھے۔

حضرت قید اللہ عینہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب آپ ﷺ کو دیکھا تو ہبہت کے مارے کانپنے لگیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے غریب دل کو برقرار رکھ اور ڈرمت۔ حضرت ابن مسعود اللہ عینہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کے روبرو عقبہ بن عمر کھڑے ہوئے تھوڑے سے کانپنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ طبیعت پر آسانی کرو۔ میں کوئی جابر بادشاہ نہیں ہوں حالانکہ آپ ﷺ کو تمام خزانے روئے زمین کے اور تمام شہروں کی سنجیاں عالم کشف میں عطا کی گئی تھیں اور آپ ﷺ کی حیات میں بلاد جماز اور یمن اور تمام جزیرہ عرب اور نواحی شام و عراق فتح ہو گئے تھے اور آپ ﷺ کے حضور میں خس، صدقات اور عشر پیش کئے جاتے تھے اور سلاطین کی طرف سے عدا یا (تحائف) بھی پیش ہوتے تھے۔ ان سب کو آپ ﷺ نے لوجہ اللہ خرج فرمایا اور مسلمانوں کو غنی کر دیا اور فرمایا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے لئے احمد پھاڑ سونا بن جائے اور پھر رات کو اس میں سے ایک دینار بھی پاس رہے، بجزا یے دینار کے کہ جس کو کسی قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔ یہ آپ ﷺ کے کمال سخاوت اور جو دعطا کی شان ہے چنانچہ اسی کمال سخاوت کے سبب آپ ﷺ مقدوض رہتے تھے حتیٰ کہ جس وقت آپ ﷺ کا وصال ہوا آپ ﷺ کی زرہ الہ دعیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ آپ ﷺ اپنے ذاتی خرج، لباس اور رہائش میں صرف قدر ضروریات پر اکتفا کرتے تھے اور اکثر اوقات آپ ﷺ کمبل،

موٹا کھیس اور گاڑھی چادر پہننے تھے بب کہ بعض اوقات اپنے اصحاب کو ریشم کی قابا جس میں سونے کے تار بنے ہوتے تھے تجھے عطا فرماتے تھے۔ اور جو اس وقت ان میں موجود نہ ہوتے ان کے لئے بچا کر رکھتے تھے۔

حضرت عائشہ رض نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ اس (قرآن) کی خوشی کی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور اس کی ناخوشی کی بات سے ناخوش ہوتے تھے، یعنی قرآن سے جو بات حق تعالیٰ کے خوش یا ناخوش ہونے کی ثابت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور ناخوشی اس کے تابع تھی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل فطرت میں مکار م اخلاق (اخلاق کی بلندی) اور ممتاز طبع اور اعتدال امراض پر پیدا کیا تھا۔

حضرت آمنہ بنت وصب رض نے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کھلے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اخھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایذاہ دینے پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے اور سب سے بڑھ کر حلیم تھے برائی کرنے والے سے درگزر فرماتے تھے اور جو شخص آپ سے بدسلوکی کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حسن سلوک کرتے تھے۔

جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیتے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے درگزر فرماتے اور کسی کام کے دو پہلوؤں میں سے جو آسان ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار فرماتے بشر طیکہ وہ گناہ نہ ہوتا (اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کی رعایت فرمائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے کبھی انتقام نہ لیا حتیٰ کہ سیرت ابن ہشام میں مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی و قاس رض کے بھائی عتبہ بن ابی و قاس نے جنگ احمد کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھرمارے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شکستہ ہو کر جھوگیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ ان کو میرے مقام کی خبر نہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی آدمی یا جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا البتہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ الگ بات ہے اور نہ کسی عورت کو مارا اور نہ کسی خادم کو مارا۔

حضرت جابر رض سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمادیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا بار اٹھا لیتے تھے غریب آدمی کو مال دے دیتے یا دلوادیتے اور مسمان کی مہمانی کرتے اور حق معاملات میں معافونت فرماتے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ دن کے لئے کوئی چیز اٹھا کرنہ رکھتے تھے جیسا کہ حضرت انس نے حضرت عباس رض سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں ہوائے بارش خیز سے بھی زیادہ فیاض تھے۔

حضرت ابن عمر رض بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرنہ کوئی شجاع دیکھا، نہ مضبوط دیکھا، نہ کوئی فیاض دیکھا اور نہ دوسرا اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے اور شجاع وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رہتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے لشکر کے قریب ہوتے تھے تو اس شخص کو بھی اس صورت دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا حضرت ابو سعید خد ری رض سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا میں اس سے بھی بڑھ کرتے تھے جیسے کنواری لڑکی پرده میں ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت لطیف الجلد اور انداز میں ہوتا تھا اور کسی شخص کے منہ پر ناگوار بات نہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رض سے روایت ہے کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور عادت سخت گو تھے اور نہ بتکفت سخت گو بنیت تھے اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے۔ برائی کا عوض برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرمادیتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ غایت حیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہ نظر تی تھی (یعنی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالتے تھے) اور اگر کسی نامناسب چیز کا کسی ضرورت کے تحت ذکر کرنا ہی پڑتا تو اشارے میں فرماتے۔

حضرت علی رض سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے۔ بات کے پچ تھے طبیعت کے زم تھے۔ معاشرت میں نہایت کریم تھے اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرمائیتے اور ہدیہ قبول فرمائی

لینے اگرچہ ہدیہ یا طعام گائے یا بکری کا پایا ہی ہوتا اور ہدیہ کا بدل بھی دیتے تھے دعوٰت غلام کی، آزاد کی، لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرمائیتے اور شرم دینے کی اتنا آبادی پر بھی اگر کوئی مرضیں ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے۔ مذدرت کرنے والے کا نذر قبول فرماتے اور اپنے اصحاب سے ابتداء مصافح فرماتے اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گے جس سے اور وہ پر جگہ نہ کج ہو جائے۔ جو آپ ﷺ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لئے بچا دیتے اور گدھ تکلیف خود پھوڑ کر اس کو دے دیتے کسی شخص کی بات پیچ میں نہ کائتے اور تبسم فرمائے اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کرتے۔ بعض اوقات فرستادوں کی خود خدمت فرماتے جیسے نجاشی بادشاہ کے فرستادے آئے تھے۔ اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیتے اور اپنے کپڑے میں خود پونڈ لگایتے اور اپنی لعلیں کو خود بوقت حاجت ہی لیا کرتے تھے اپنا اور گھروں والوں کا کام کر لیا کرتے حتیٰ کہ گھر کی صفائی میں بھی ان کی امانت فرماتے خدمت گاروں کے ساتھ کھانا کھایتے اور ان کے ساتھ آنا گوند ہوا لیتے اپنا سودا سلف بازار سے خود لے آتے تھے اور سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور عدل کرنے والے، پاکیزہ اور رج بولنے والے تھے حتیٰ کہ ابو جمل بن بشام باوجود اس کے کہ آپ ﷺ کا کامل دشمن تھا مگر انہیں بن شریق نے بدر کے روز جب اس سے پوچھا کہ اے ابو الحلم یہاں میرے اور تیرے سے اکوئی موجود نہیں کہ جو ہماری بات کوں لے گا تو مجھے یہ بتلا کر محمد پچ ہیں یا جھوٹے تو ابو جمل نے کہا اللہ محمد پچ ہیں اور محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ حضرت خارجہ بن زید رض سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے اور حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ جب مجلس میں بیٹھتے تو بعض اوقات دونوں پاؤں کھڑے کر کے ملا کر ان کے گرد ہاتھوں کا حلقة بنایا کر بیٹھتے (اس کو احتباء کہتے ہیں اور یہ تو واضح اور سادگی کا ایک محبوبہ

انداز ہے)۔

حضرت جابر بن سمرة رض سے روایت ہے کہ آپ چار زانوں بھی بیٹھتے تھے اور بعض اوقات بغل میں ہاتھ دے کر بیٹھ جاتے اور جب آپ چلتے تو ملائیت کے ساتھ

چلتے۔ آپ کی چال سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ نہ آپ کے دل میں بُنگی ہے کہ گھبرائے ہوئے چلیں اور نہ طبیعت میں سستی ہے کہ پاؤں نہ اٹھتا ہو۔ غرض یہ کہ نہ بہت تیز چلتے اور نہ سست رفتار تھے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کے کلمات میں نہایت وضاحت ہوتی تھی اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ اس طرح کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا الفاظ کو شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا۔ آپ ﷺ خوبصوردار چیزوں اور خوبیوں کو بہت پسند فرماتے اور کثرت سے اس کا استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے اور انگلیوں اور ہڈیوں کے جوڑوں کو صاف رکھنا پسند فرماتے کیونکہ یہ مقامات میں جمع ہونے کے ہیں۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی بھی متواتر تین روز تک پیٹ بھر کر روٹی نہیں بکھائی یہاں تک کہ آخرت کو روانہ ہو گئے اور فاقہ آپ ﷺ کو بہ نسبت تو نگری کے زیادہ محظوظ تھا۔

حضرت حفصؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کا بسرا ایک ناث تھا۔ کبھی کبھی آپ ﷺ چارپائی پر بھی آرام فرماتے جو کھجوروں کے بان سے بنی ہوئی تھی حتیٰ کہ آپ ﷺ کے پہلو مبارک پر اس کا نشان پڑ جاتا۔

حضرت ام معبدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سکوت اختیار فرماتے تو چہرہ اقدس سے وقار و عظمت اور جلال و بیعت جھلکتی اور کلام فرماتے تو یوں معلوم ہوتا کہ پر دیے ہوئے موتویوں کا ہمارے ہے جو نیچے ڈھنک رہا ہے اور کلام و گفتگو میں شد کی سی مٹھاس ہوتی کلام نہ اتنا قلیل اور مختصر ہو اسکے مطلب کی ادائیگی مشکل ہو اور فرم مقصود میں مخل ہو اور نہ اتنا طویل ہو تاکہ غیر ضروری کلمات پر مشتمل ہو۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جس طرح تم لوگ مسلسل تیزی کے ساتھ گفتگو کرتے ہو اگر کوئی شخص حضور ﷺ کے الفاظ کو شمار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو کبھی بھی اس طرح کھل

کھلا کر ہستے نہیں دیکھا بلکہ آپ صرف قبسم فرمایا کرتے تھے اور عبد اللہ بن حارث رض فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کسی کو سکرانے والا نہیں دیکھا۔

حضرت انس رض فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب کسی شخص سے مصالحہ کرتے تو جب تک وہ شخص خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا حضور ﷺ اپنے دست اقدس کو اس کے ہاتھ سے علیحدہ نہ کرتے تھے، اور جب تک وہ اپنا منہ نہ پھیر لیتا حضور ﷺ اپنارخ انور اس سے نہ پھیرتے تھے اور کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حضور ﷺ اپنے زانو مبارک اپنے ہم شین سے آگے بڑھا کر بیٹھے ہوں۔

حضرت جابر بن سمرة رض فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور ﷺ کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ نماز پڑھ کر حضور ﷺ گھر تشریف لے چلے۔ میں بھی حضور ﷺ کے ساتھ تھا۔ سامنے سے کچھ بچے آتے ہوئے ملے حضور ﷺ ہر ایک کے رخاروں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ پھر میرے دونوں رخاروں پر ہاتھ پھیرا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے دست اقدس کی ٹنکی اور خوبصورت محسوس کی۔ معلوم ہوتا تھا کہ حضور ﷺ نے اپنا ہاتھ عطر کے ذبہ سے نکالا ہے۔

حضرت امام حسن رض سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے اموں ہند بن الی ہالہ رض سے فرمایا کہ حضور ﷺ کی گفتگو سے متعلق کچھ بیان کیجئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ ہر وقت آخرت کے غم اور ہیشہ امور آخرت کی سوچ میں وہتے تھے۔ کسی وقت آپ ﷺ کو چین نہیں ہوتا تھا اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے۔ آپ کا سکوت طویل ہوتا تھا۔ گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی۔ کلام ایسا جامع فرماتے کہ اس کے الفاظ مختصر گر پر مغز ہوتے آپ کا کلام حق و باطل میں فیصل ہوتا جو نہ زائد ہوتا اور نہ کم ہوتا۔ آپ نرم مزاج تھے۔ نہ مزاج میں سخت تھی اور نہ مخاطب کی اہانت فرماتے۔ نعمت اگر قلیل بھی ہوتی تب بھی اس کی تنظیم فرماتے اور کسی نعمت کی نعمت نہ فرماتے مگر کھانے کی چیز کی نعمت اور مدح دونوں نہ فرماتے۔ نعمت تو اس لئے نہ فرماتے کہ نعمت تھی اور مدح اس لئے نہ فرماتے کہ اکثر اس کا سب جرس

اور طلب لذت ہوتی ہے۔ جب امر حن کی کوئی شخص ذرا مخالفت کرتا تو اس وقت آپ کے غصہ کی کوئی تاب نہ لاسکتا تھا جب تک کہ اس حن کو غالب نہ کر لیتے۔ اپنی ذات کے لئے غصب ناک نہ ہوتے تھے اور نہ اپنی ذات کے لئے انتقام لیتے تھے۔ گفگو کے وقت بب آپ اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے اور جب کسی امر پر متوجہ فرماتے تو ہاتھ کو لوٹتے اور بات کرتے تو داہنے انگوٹھے کو باہمیں ہٹھلی سے مصل کرتے یعنی اس پر مارتے جب آپ مشتہیں کو غصہ آتا تو آپ مشتہیں ادھر سے منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدلتے اور جب خوش ہوتے تو نظر پنجی کر لیتے۔

---



---

## فصل دوم

### حضور ملیٰ علیہ السلام کی دلخوبی، نرم خوبی اور شفقت و رحمت کا بیان

باری تعالیٰ نے آپ ﷺ کے یہ اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
كُنْتَ فَطَّالَ عَلٰيْهِ الْقُلْبُ لَا نَفَضُوا بِنَحْنٍ  
وَشَاؤُرُهُمْ فِي الْأَمْرِ  
(آل عمران، ۱۵۹:۳)

کیا کمال مریانی ہے کہ اے محجوب  
آپ ان کے لئے نرم دل ہوئے، اگر  
تند مزاج، سخت دل ہوتے تو وہ ضرور  
آپ کے گرد سے پریشان ہو کر چھٹ  
جائتے پس آپ انہیں معاف فرمائیں  
اور ضروری کاموں میں ان سے  
مشورہ کریں۔

ابن الی ہالہ اللّٰهُ تَعَالٰی نے آپ کی توصیف میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ  
ہمیشہ پھول کے مانند کھلے رہتے تھے۔ خوش اخلاق اور نرم خوتھے۔ آپ بد اخلاق، سنگ  
دل، بازاروں میں چلانے والے، بد کلامی کرنے والے، دوسروں میں کیڑے نکالنے  
والے اور چالپوس بالکل نہیں تھے۔ جس چیز کی ضرورت نہ ہوتی آپ اس کی جانب توج  
نہیں فرماتے تھے۔ کوئی سائل آپ کی بارگاہ عالی سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔  
اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ ضرور قبول فرماتے۔ ہدیہ خواہ کتنا  
ہی بلکا یا کم قیمت کیوں نہ ہوتا آپ قبول کرنے سے انکار نہ فرماتے اور اس کے بال مقابل  
آپ ہدیہ دینے والے کو نوازتے۔

حضرت انس اللّٰهُ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں دس سال رسول اللہ ﷺ کی  
خدمت میں رہا اور اس عرصے میں آپ نے مجھ سے کبھی افسنگ نہ فرمایا۔ جب میں  
نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا اور جب کوئی کام نہ کیا تو

بھی نہ فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہ کیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے، بہتر کسی کا اخلاق نہیں تھا۔ جب بھی آپ کے صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی نے بلا یا تو فوراً اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب سے میں مسلمان ہوا کبھی مجھے آپ نے اپنے آنے سے منع نہیں فرمایا اور جب بھی میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو تمسم فرماتے ہوئے دیکھا۔ فخر دو عالم ﷺ اپنے اصحاب کی ولنازوی فرماتے۔ ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ ان کے بچوں کی دلجوئی فرماتے اور انہیں گود میں اٹھایا کرتے تھے۔ ہر آزاد، غلام، لوئڈی اور مسکین کی دعوت قبول فرمایا کرتے تھے مدینہ منورہ کے کسی گوشے میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو آپ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے اور عذر خواہ کا مذکور قبول فرمایا کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بات کرنے کے لئے آپ کے گوش مبارک سے مند لگتا تو آپ سر کو پیچھے نہیں ہناتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ شخص خود ہٹ جاتا۔ جب بھی کسی نے آپ کا دست مبارک پکڑا، آپ نے کبھی اس سے نہ چھڑایا۔ جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ صحابہ کرام سے مصافحہ کرنے میں آپ پہل کرتے۔ جب بھی کوئی شخص ملتا تو رسول اللہ ﷺ اسے پہلے سلام کرتے۔ اپنے صحابہ کے درمیان آپ کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے جس سے دوسروں کو متسلی ہو۔ جو شخص آپ کے پاس حاضر ہوتا آپ اس کی عزت کرتے اور بعض اوقات اس کے لئے کپڑا بچھا دیتے یا تکمیلہ عایت فرمادیتے تھے۔ اگر کوئی صحابی انکار کرتا تو آپ اصرار کر کے بحثاتے اور بعض اوقات اسے بیٹھنے کے لئے قسم تک دیتے تھے۔

فخر دو عالم ﷺ اپنے اصحاب کو پیارے پیارے ناموں اور القاب سے لپکارتے تھے۔ کسی کی بات نہ ثوکتے۔ اگر کوئی کلام میں تجاوز کرتا تو اسے روک دیتے یا خود انہ کر پلے جاتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ایسے وقت آتا کہ آپ نماز میں

مشغول ہوتے تو آپ نماز کو مختصر فرمادیتے تھے۔ اس شخص کی ضرورت معلوم کر کے پلے اس کی حاجت روائی فرماتے پھر اس کے بعد نماز میں دوبارہ مشغول ہو جاتے۔  
نزوں قرآن، وعظ اور خطبے کے علاوہ آپ تمسم ریز اور ہشاش بشاش نظر آتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن حارث رض نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر تمسم کا خونگر کسی کو نہیں دیکھا۔

حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ مدینہ کے غریب لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور اپنے برتوں میں پانی بھر کر لاتے۔ جب نبی کریم ﷺ صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو ان کے پانی کے برتوں میں ہاتھ ڈبوتے جاتے حالانکہ بعض اوقات صبح کو سخت سردی بھی ہوتی۔ ایسا کرنے سے ان لوگوں کا مقصود برکت حاصل کرنا ہوتا تھا۔ وہ پانی اپنے بیاروں کو پلاتے اور انہیں اس کی برکت سے شفایابی ہوتی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رض سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رض ان کے ہاں تشریف لائے اور ان کے پاس دو بچیاں دف بخاری تھیں اور یہ عید قربان کا موقع تھا۔ سرور دو عالم رض کپڑا اوڑھے ہوئے آرام فرمائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رض نے ان بچیوں کو زجر و توبخ فرمائی تو صاحب خلق عظیم علیہ السلام نے کپڑا منہ مبارک سے ہٹایا اور فرمایا اے ابو بکران کو اپنے حال پر رہنے والے دو کو نکل یہ عید اور خوشی کے دن ہیں۔

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رض فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے خلق عظیم کا مظاہرہ اس طرح دیکھا کہ جب شی لوگ مسجد کے سامنے کھلی جگ پر جنگ کی تیاری کے سلسلہ میں نیزوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ مجھے اپنی رداء اندس (چادر مبارک) سے ڈھانپتے رہتے اور میں ان کا کھلی دیکھتی رہتی اور جب تک میں خود بیٹھنے جاتی آنحضرت رض میرے لئے کھڑے رہتے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رض سے مروی ہے کہ میں سرور دو عالم رض کے ساتھ سلسلہ ازدواج میں ملک ہو جانے کے بعد کبھی کبھی گھر میں گزوں کے ساتھ کھیلا کرتی اور میری سیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلا کرتیں۔ جب وہ رسول کریم رض کو

دیکھتیں تو کھلیل چھوڑ کر چھپ جاتیں۔ آپ ان کو چھپی ہوئی بجھوں سے نکال کر باہر لاتے اور میرے ساتھ کھلینے کا حکم دیتے تو وہ میرے ساتھ کھلنے لگ جاتیں۔

حضرت اُنس رض سے یہ بھی مردی ہے کہ ایک یہودی لڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور فرمایا کیا تو اس امر کی گواہی دیتا ہے۔ ”أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا إِنْسَانٌ مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ“ اس لوگے نے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے کما جو کچھ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں وہ کہ دے اور اعتراف توحید و رسالت کر لے۔ چنانچہ اس نے کلمہ شادت پڑھ لیا اور فوت ہو گیا تو صیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھو اس کو اپنے قبرستان میں دفن کرو۔ یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو یہ گوارانہ تھا کہ وہ لڑکا جو آپ کی خدمت کرتا رہا تھا خواہ یہودی ہی کیوں نہ ہو اس کی موت اسلام پر نہ ہو اور وہ دوزخ میں چلا جائے۔ اس کی عیادت کے دوران آپ نگاہ نبوت سے بھانپ گئے تھے کہ وہ قریب المرگ ہے۔ اس لئے اسے وہیں بیٹھے قبول اسلام کی دعوت دے دی۔ وہ مسلمان ہو گیا اور آپ کے تشریف لے جاتے تھی اس کی روح نفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ گویا اس کی موت سے پہلے اس کی خدمت کا صلد عطا فرمادیا۔ دل جوئی اور شفقت کریمانہ کا یہ عالم کہ اس کی عیادت کے لئے اس کے گھر تشریف لے گئے حالانکہ اس کا باپ یہودی تھا اور یہود کی اسلام کے ساتھ دشمنی بڑی واضح تھی۔

## فصل سوم

### حضور ﷺ کے حسن عمد صلہ رحمی اور تواضع کا بیان

حضرت عبد اللہ بن الی حماء رض سے روایت ہے کہ میں نے اعلانِ نبوت سے پہلے نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سو دا کیا تھا۔ آپ کا کچھ ماں میرے ذمے باقی رہ گیا تو میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی لے کر حاضر ہوتا ہوں، آپ اسی جگہ تشریف رکھیں۔ میں جا کر اپنے وعدے کو بھول گیا اور تیرے روز مجھے یاد آیا تو ماں لے کر آپ کی جانب چل پڑا۔ دیکھا تو آپ اسی جگہ کھڑے انتظار فرار ہے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ اے نوجوان! تم نے مجھے تکلیف دی ہے کیونکہ میں تین دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔

حضرت انس رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں جب ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ فرماتے۔ اسے فلاں عورت کے گھر پہنچا دو کیونکہ وہ خدیجہ رض کی سملی ہے اور ان سے محبت کیا کرتی تھی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رض فرماتی ہیں کہ جتنا رٹک میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رض پر کیا کرتی اتنا کسی دوسری عورت پر نہیں کیونکہ میں سنت تھی کہ حبیب پروردگار ملکہ رض اکثر انہیں یاد کرتے تھے۔ آپ بکری ذعن کرنے تو ان کی سیلیوں کے لئے ہدیہ بھیجتے۔ حضرت خدیجہ رض کی ہمسیرہ ایک دفعہ دروازہ پر آگر اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگیں تو آواز سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور استقبال کے لئے ان کی جانب لپکے۔ اسی طرح ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو آپ نے بطریق احسن اس کا حال دریافت کیا اور دلچسپی فرمائی جب وہ چل گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورت حضرت خدیجہ رض کے پاس آیا کرتی تھی اور فرمایا کہ حسن عمد نیمان کی نشانی ہے۔

بعض سلف صالحین نے توصیف مصطفیٰ ﷺ میں فرمایا ہے کہ آپ سب کے ساتھ صدر حمی فرماتے تھے لیکن فضیلت کا لحاظ بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی نواسی یعنی المالہ بنت زینب رض کو گود میں انداز کر نماز پڑھی۔ جب آپ سچے میں جاتے تو انہیں اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو انہا لیتے۔

حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ نجاشی جب شہ کا وند بارگاہ رسالت ماب میں حاضر ہوا تو آپ نے خود ان کی خاطر مدارت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ ملیحہ اعمیں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ﷺ خدمت کے لئے آپ کے غلام کافی ہیں۔ رحمۃ دو عالم رض نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے ملک میں ہمارے ساتھیوں کا شایان شان خیر مقدم کیا تھا میں اس احسان کا بدلہ پکانا چاہتا ہوں۔

قبیلہ ہوازن کے قیدیوں میں آپ کی رضاعی بن شیما (جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پا تھا) بھی تھیں۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو ان کے لئے اپنی چادر بچھا دی اس کے بعد زبان حق تر جان سے فرمایا کہ اگر تم ہمارے پاس رہنا چاہو تو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا جائے گا اور اگر وہاں اپنے قبیلہ میں جانا چاہو تو اپنے ساز و سامان سمیت واپس جائیں گے۔ انہوں نے اپنی قوم میں واپسی جانا پسند کیا تو آپ نے کافی سامان اور مال و دولت دے کر انہیں رخصت کیا۔

حضرت ابوالظفیل رض فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھپن کے دنوں میں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک عورت آئی۔ جب قریب ہوئی تو آپ نے اس کے لئے اپنی چادر بچھا دی۔ وہ بینہ گئی تو میں نے دوسروں سے پوچھا کہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا رسول ﷺ کی ایک رضاعی والدہ ہیں۔

حضرت عمرو بن سائب رض روایت کرتے ہیں کہ سرور کون و مکان رض تشریف فرماتھے کہ آپ کا ایک رضاعی باپ ہے۔ آپ نے ان کے لئے کپڑا بچھا دیا۔ جس پر وہ بینھے گئے۔ اس کے بعد رضاعی والدہ آگئیں تو آپ نے ان کے لئے کپڑے کا دوسرا حصہ پچھا دیا جس پر وہ بینھے گئیں۔ اس کے بعد آپ کا رضاعی بھائی آگیا تو رسول الکرم رض کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے بھالیا۔ اسی طرح جبیب خدا رض

اپنی رضائی والدہ ثوبیہ کے لئے پسند کے کپڑے بھیجا کرتے تھے (جنہیں ابوالب نے آزاد کر دیا تھا)۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو آپ نے ان کے قریبی رشتہ داروں کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔

پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ کی کیفیت دیکھ کر حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رض نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نصان نہیں پہنچنے دے گا کیونکہ آپ صدر حمدی کرتے ہیں، عاجزوں کے سر کا بوجہ ہلکا کرتے ہیں، غرباء کو مال و دولت مرحت فرماتے، مہمان نوازی کرتے اور حقوق اللہ میں لوگوں کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ آپ عند اللہ اور عند الناس علو منصب اور رفتہ رفتہ کے باوجود تمام لوگوں سے زیادہ متواضع تھے۔ تکمیر کا آپ کے نزدیک سے بھی گزر نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی عبد تو آپ نے نبی عبد بننا پسند فرمایا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس وقت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہوئے مژده سنایا کہ آپ کی اس تواضع کے باعث اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمادیا ہے کہ بروز قیامت آپ جملہ بنی آدم کے سردار ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ قرانور سے باہر تشریف لا کیں گے اور گھنگاروں کی سب سے پہلے شفاعت آپ ہی فرمائیں گے۔

حضرات صحابہ کرام کی مرویات میں آپ کی تواضع کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ گھر پلو کاموں میں بھی مشغول ہو جاتے تھے۔ اپنے کپڑے خود صاف کر لیتے، بکری دوہتے، کپڑوں کو پیوند لگاتے۔ غلطین مبارک کی مرمت کر لیتے، اپنے ذاتی کام کرتے، گھر کا انتظام کرتے، اونٹ خود باندھتے، اونٹوں کے آگے چارہ ڈال دیتے، غلام کے ساتھ بینخ کر کھانا تناول فرمائیتے بلکہ اس کے ساتھ آناؤندھ لیتے اور بازار سے اپنا سود اسلف خود اٹھا کر لاتے تھے۔

حضرت انس رض سے مروی ہے کہ اہل مدینہ کی بے سار اعورتوں میں سے اگر کوئی آپ سے اعانت کی طلبگار ہوتی تو آپ اس کی اعانت فرماتے۔ جہاں وہ لے جانا چاہتی وہاں تشریف لے جاتے اور اس کی حاجت روائی فرماتے۔ ایک شخص بارگاہ

رسالت میں حاضر ہوا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاطر جمع رکھو میں کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں ہوں۔ میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔

---



---



## باب ششم

حضور ﷺ کے اخلاق مبارکہ کا بیان  
(جود و سخا اور حلم و برداشت)



حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا سخاوت میں جواب نہیں تھا اور رمضان المبارک میں تو آپ ﷺ کا دریائے کرم انتہائی طیبیانی پر آ جاتا تھا جب جبرائیل علیہ السلام آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ ﷺ کو تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ سُنی دیکھتے۔

حضرت انس ہبھی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے سوال کیا اور اس وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس اتنی بکریاں تھیں جن سے دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھری ہوئی تھی آپ ﷺ نے وہ ساری بکریاں اسے عطا فرمادیں جب وہ اپنے قبیلہ میں پہنچا تو قبیلے والوں سے کہنے لگا ہمایوں مسلمانوں ہو جاؤ کیونکہ محمد رسول اللہ ﷺ اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ مال کے ختم ہونے کا اندیشہ دل میں ہی نہیں تھا۔

کتنے ہی مواقع پر آپ ﷺ نے لوگوں کو سوساونٹ مرحمت فرمادیے۔ آپ ﷺ نے صفوان بن سلیم کو سوساونٹ مرحمت فرمائے بلکہ اتنے ہی دوسری دفعہ اور اتنے ہی تیری دفعہ دیے۔ آپ ﷺ کی سخاوت کا یہی عالم اعلان بوت سے پہلے بھی تھا۔ ورقہ بن نوفل کا کارتے تھے۔ کہ آپ ﷺ بھاری کہنے والوں اور محور لوگوں کی کفالت فرماتے اور مجاہوں کے لئے مال کاتے ہیں۔

آپ ﷺ نے قبیلہ ہوازن والوں کے چھ ہزار جنگی قیدی انہیں بغیر معادنے کے واپس کر دیئے تھے..... ایک دفعہ آپ ﷺ نے حضرت عباس ہبھی کو اتنا سونا مرحمت فرمایا کہ وہ اسے اٹھا بھی نہ سکے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بارگاہ رسالت کتاب ﷺ میں نوے ہزار درہم پیش

کئے گئے آپ ﷺ نے انہیں ایک چنانی پر رکھوا لیا اور تقسیم فرمانے لگے۔ جو بھی سائل آتا سے عنایت فرماتے اور کسی سائل کو غالباً ہاتھ نہ لوٹاتے۔ جب آپ ﷺ سارے درہم تقسیم فرمائے تو ایک سائل اور آمیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم مبارے نام پر اپنی ضرورت کی چیزیں ادھار خرید لوجب کسی جانب سے مال آئے گا تو تمہارے قرضے کی ادائیگی کر دیں گے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ﷺ جس کام کی استطاعت نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار نہیں دیا۔ نبی کریم ﷺ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ایک انصاری عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ خرچ کرتے جائیں کیونکہ مالک عرش آپ کو مال کی کمی کا انذیرہ کبھی لاحق نہیں ہونے دے گا۔ یہ ساعت فرمائے آپ مسکرائے اور چڑھے انور سے خوشی کے آثار جھلکنے لگے۔ مجھے یہ حکم ملا ہے۔  
(جامع ترمذی)

حضرت معوذ بن عفرا ہبھٹھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے طلاق میں تازہ مکحوریں اور چھوٹی چھوٹی اس رکھ کر بارگاہ رسالت میں پیش کیں۔ آپ ﷺ نے مجھے ایک بھیل بھر سونا مرحت فرمایا۔ حضرت انس ہبھٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کبھی آنے والے کل کے لئے ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ ہبھٹھ سے روایت ہے کہ ایک شخص کسی غرض کے تحت بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوا آپ ﷺ نے نصف و سبق غلہ کسی سے ادھار لے کر اسے مرحت فرمایا۔ جب قرض خواہ نے آپ ﷺ سے تقاضا کیا تو آپ ﷺ نے اسے پورا و سبق عطا فرمایا اور بتا دیا کہ نصف تمہارا قرض ہے اور نصف تماری عطا ہے۔

روایت ہے کہ غزوہ احمد کے روز جب رسول اللہ ﷺ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ ﷺ کا پھرہ انور زخمی ہوا تو صحابہ کرامؓ کو اس واقعہ سے بہت سی صدمہ پہنچا اور وہ بارگاہ رسالت میں بھڈ بھڑو نیاز عرض گزار ہوئے کہ کفار کی تباہی اور بر بادی کے لئے دعا فرمادی جائے۔ (قربان جائیں) اس وقت بھی اس سر اپا

رحمت نے یہی فرمایا کہ مجھے تو اس لئے بھیجا گیا ہے کہ مخلوق خدا کو حق کی دعوت دوں میں ان پر عذاب لانے کے لئے تو نہیں بھیجا گیا بعد ازاں بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اے اللہ امیری قوم کو دعوت ہدایت سے مالا مال کر دے یہ لوگ مجھے پچانتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن حفظ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر بارگاہ رسالت آب ملٹیپلیکیٹ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ملٹیپلیکیٹ! میرے ماں باپ آپ پر تربان ایسے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے کما تھا۔

اے رب از میں پر کافروں میں سے کوئی لئے والا نہ چھوڑ۔

اگر آپ ملٹیپلیکیٹ بھی اپنی قوم کے لئے ایسی ہی دعا فرمادیتے تو کوئی ایک بھی بچنے نہ پاتا حالانکہ انہوں نے آپ ملٹیپلیکیٹ کو زخمی کیا، آپ کارو خ انور خون آلو دہ ہو گیا اور دندان مبارک شہید کر دیئے گئے۔ اس کے باوجود آپ ملٹیپلیکیٹ نے ان کے لئے ہلاکت کی دعا مانگنے سے انکار فرمایا بلکہ قوم کی بھلانی کے لئے بارگاہ خداوندی میں یوں طلبگار ہوئے۔

”اے اللہ امیری قوم کو معاف فرمادے کیونکہ یہ لوگ میرے منصب کو پچانتے نہیں“

حضرت انس بن حذیفہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ملٹیپلیکیٹ کے ہمراہ تھا اور آپ ملٹیپلیکیٹ نے موئے کناروں والی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ایک اعرابی نے آپ ملٹیپلیکیٹ کی اس چادر کو زور سے کھینچا جس کے باعث گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ اس کے بعد اعرابی کرنے لگا

اے محمد امیرے ان دونوں اونٹوں کو مال سے لاد دو۔ تم کچھ اپنے باپ کے مال سے تو نہیں دو گے۔ رسول اللہ ملٹیپلیکیٹ خاموش ہی رہے اور صرف یہی فرمایا کہ مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں ..... پھر فرمایا کہ اے اعرابی! اکیا آپ سے اس زیادتی کا بدلتا یا جائے۔ اس نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو گا کیونکہ آپ ملٹیپلیکیٹ برائی کا برائی کے ساتھ بدلہ نہیں دیا کرتے۔ نبی کریم ملٹیپلیکیٹ نے تمسم فرمایا اور حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دو۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نسی ایسی زیادتی کا بدل کبھی نہیں لیا جس کا تعلق آپ ﷺ ہی کی ذات سے ہو، ہاں محارم انہی کا معاملہ الگ ہے۔ آپ ﷺ نے کسی کو اپنے باتحہ سے نہیں مارا مساوئے میدان جہاد کے اور اپنے کسی خادم یا ازواج مطررات میں سے کسی کو بھی نہیں پینا۔

حضرت حسن مجتبی ہبھڑ، حند بن الی بالہ ہبھڑ سے راوی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو دنیا اور دنیاوی اشیاء نہ ارش نہیں کرتی تھیں۔ جب حق پر تهدی کی جاتی تو پھر آپ ﷺ کے غیض و غضب کے آگے کوئی شے نہر نہیں کھلی تھی جب تک اس کا بدل نہ لے لیتے۔ ز آپ ﷺ اپنی ذات کے لئے نہ ارش ہوتے تھے اور نہ ہی اس کے لئے بدل لیتے تھے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مردی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ پر احمد کے دن سے بھی کوئی زیادہ سخت دن آیا ہے جس میں آپ ﷺ کو تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہاری قوم قریش سے ایسے کئی دن دیکھے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ سخت دن عقبہ کا دن تھا جب کہ میں نے طائف میں جا کر عبد کال کے بیوں کو اسلام قبول کرنے اور تبلیغ اسلام میں اعانت و نصرت کے لئے کماگر انہوں نے میری دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ اوباش اور آوارہ لوگوں کو میری ایذا رسانی پر مامور کر دیا جنوں نے مجھے پھرمار مار کر لوہمان کر دیا۔ میں انتہائی ٹمکیتی کی حالت میں چل دیا اور جب قرن ثعلب میں پہنچا تو طبیعت میں افاق ہوا اور رنج والم اور درود و غم سے طاری ہونے والی مد ہوشی ختم ہوئی۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک بادل سا مجھ پر سایہ قلن ہے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت جبراہیل علیہ السلام میں انہوں نے مجھ کو پکار کر کما اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی طرف پہاڑوں پر مامور فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں حکم دیں اتنے میں پہاڑوں پر مامور فرشتے نے مجھے نداء دی اور سلام پیش کرنے کے بعد کما بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی قوم کا جواب نا ہے اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں مجھے آپ ﷺ کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ جو چاہیں مجھے حکم فرمادیں۔ اے محمد ﷺ! اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں

کو آپس میں ملا دوں اور اہل طائف کو ان کے درمیان پیش کر رکھ دوں۔

سرور عالم رحمت مجسم ملئی تھی نے فرمایا نہیں میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیشوں سے ایسے افراد پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں نہ مرد نہیں گے لہذا میں تجھے یہ حکم نہیں دیتا۔

امام زہری "فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے کماکہ میں تورات میں بیان کردہ صفات نبویہ بھی دیکھ چکا صرف آپ ملئی تھیں کی حلم برداری کا مشاہدہ اور تجربہ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ میں نے آپ ملئی تھیں کو ایک مدت معینہ کے لئے تمیں دینار بطور قرض دیئے ابھی مدت مقررہ میں ایک دن باقی تھا کہ میں حاضر ہو اور عرض کیا اے محمد ملئی تھیں مجھے میرا حق پورا پورا ادا کریں۔ تم سب نبی عبد الملک ثالث مٹول اور پس و پیش سے کام لینے والے ہو۔ حضرت عمر بن حیثی نے کہا اے یہودی! کیا پاگل تو نہیں ہو گیا! بخدا اگر سرور عالم ملئی تھیں موجود نہ ہوتے تو میں تیرا سر قلم کر دیتا رسول اللہ ملئی تھیں نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے اے عمر بن حیثی! ہمیں تمہاری طرف سے اس سے مختلف سلوک اور برتری کی ضرورت تھی۔ مجھے واجب الاداء قرض کی ادائیگی کا مشورہ دیتے اور اس کو حق دلانے میں مدد گار ثابت ہوتے کیونکہ وہ اس امر کا زیادہ حاجتمند تھا۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میرے جمل اور احتمان سلوک نے آپ ملئی تھیں کے حلم و تحمل میں انسانہ کیا نہ کہ غیض و غضب میں۔

پھر آپ ملئی تھیں نے فرمایا یہودی تیری مقرر کردہ مدت کل پوری ہو گی اور تیرا قرض واجب الادا ہو گا۔ حضرت فاروق اعظم بن حیثی سے فرمایا: اے ابا حفص فلاں باغ کی طرف کل جانا جس کا مطالبہ اس نے پہلے دن کیا اور اس سے اس کا قرض ادا کرنا۔ اگر راضی ہو جائے تو بتیر نیز اسے مزید اتنے صاف دے دینا اور اگر وہاں سے اپنے قرض کا عوض وصول کرنے پر رضا مند نہ ہو تو پھر فلاں باغ سے اس کا قرض ادا کر دینا اور اتنے صاف مزید بھی دینا تاکہ جو تعلیظ و تشدید تم نے اس سے کی ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔

جب یہودی نے ان کھیوروں پر قبضہ کر لیا تو کہا اشهد ان لا الہ الا اللہ انہ

رسول اللہؐ بند ۱۱ سے عمران مجھے اس سلوگ پر ہو تم نے دیکھا اور سخت تارائیجی کا انہصار کیا صرف اور صرف اس چیز نے ہر انگیختہ کیا کہ میں آپ ﷺ کی جملہ علامات نبوت کو پرکھوں جو تورات میں ذکور تھیں اور صرف یہی علامت پر کھنا باقی تھی تو میں نے آن کے دن ان کے علم و حوصلہ اور تحمل و برداہی کو آزمایا اس وصف کمال کو بھی علامات تورات کے بالکل مطابق پایا اور میں تمیس گواہ بناتا ہوں کہ یہ سمجھو ریں اور دوسرے تمام مال کا نصف سب فقراء و مساکین کے لئے صدقہ ہے اس پر حضرت عمر بن حفیظ نے فرمایا بعض فقراء کو کیونکہ سب فقراء پر خرچ کرنا تصور ہے بس کاروگ نہیں ہے۔ چنانچہ اس سے بعض فقراء پر خرچ کرنے کا عملد لیا اس یہودی کا سارا گھرانہ مشرف بہ اسلام ہو گیا مساوا ایک بوڑھے کے جس کی عمر سو سال تھی وہ کفر پر اذار ہا (نحوہ بالشہ من سوء المآتمہ)

---



---



---

## باب ہفت

حضور ﷺ کے ذوقِ عبادت  
اور خشیتِ الٰہی کا بیان



حضور ﷺ پر تمام ترجیحات اور بارگاہ الہی میں بڑی تدری و منزالت کے باوجود ہمہ وقت خشیت الہی کا غلبہ رہتا۔ یہاں تک کہ آپ فرمایا کرتے کہ کاش میں ایک درخت ہو تابو کاٹ دیا جاتا۔ آپ رات کو اس قدر نفل نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک درم کر جاتے۔ اس پر حق تعالیٰ و تقدیس نے برآہ ترحم فرمایا:

”هم نے آپ پر قرآن مجید اس لئے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑیں“

آپ نماز پڑھتے اور آپ کے سیدنے مبارک سے ہندیا کا ساجوش سنائی دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو یقیناً کم ہنتے اور زیادہ روتے۔ امام ابو عیینی ترمذی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ بے شک میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ ستاتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چڑھاتے ہیں کیونکہ ان پر چار انگشت بھی جگہ الی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی پیشانی بجھے میں نہ رکھی ہو۔ خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو یقیناً تم بہت کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے۔ اور فرش زمین پر لذتوں سے لطف اندوں ہونا چھوڑ دیتے اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے ضرور جنگلوں کی طرف نکل جاتے اس کے بعد فرماتے۔ ”کاش میں درخت ہو تابو کاٹ دیا جاتا“

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کون و مکان ﷺ اس کثرت سے نماز پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ جب بارگاہ رسالت میں یہ گزارش پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ! آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں،

بجدکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب تو انکوں اور چچلوں کی افسوس بھی معاف فرمادی ہیں تو اس معلم کائنات نے جواب دیا کیا میں شگر گزار بننے بنوں؟ امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے ہر کام میں دوام و بیکھی ہوتی تھی بجدکہ کوئی بھی دوسرا ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ ایک شب تو رسول اللہ ﷺ اس طرح نماز میں مشغول ہوئے کہ ایک ہی آیت کی بار بار تلاوت کرتے ہوئے ساری رات گزار دی۔۔۔۔ حضرت عبد اللہ بن مغیرہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نماز میں مشغول تھے اور آپ کے سینہ اقدس سے اس طرح آواز آری تھی جیسا کہ کھولتی ہوئی ہند بیاسے آواز آیا کرتی ہے۔

حضرت ابن الہبیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اکثر غناک اور متغیر رہتے تھے۔ آپ کو دنیا کے آرام و راحت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خود سرور کون و مکان ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں دوسری روایت میں ستر بار استغفار کرنے کا ذکر ہے۔

حضرت علی المرتضیؑ شیر خداؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ ﷺ کی سنت کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا۔ معرفت میرا سرمایہ، عقل میرے دین کی بنیاد، محبت جزا، شوق میری سواری، ذکر الہی میرا مونس، عاجزی میرا فخر، زہد میرا پیشہ، غم میرا رفیق، علم میرا تھیمار، صبر میری چادر، رضا میری غنیمت، وثوق میرا خزانہ، یقین میری قوت، صدق میری سفارش، احکام الہی کی اطاعت میرا حسب، جہاد میری عادت ہے اور میرا آنکھوں کی مٹھنڈک نماز میں ہے۔۔۔۔۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ ذکر الہی میرے دل کا پھل ہے اور میرا غم اپنی امت کے لئے اور میرا اشتیاق اپنے پروردگار کی جانب ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم مجلس نبوی میں حاضر ہوتے تھے اور آپ وقف و قفة سے یہ فرماتے۔ اے میرے رب مجھے معاف فرمانا اور میری توبہ قبول فرماء، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے پڑھتے

رسنہتے اور شمار کرتے تو مجموعی طور پر آپ کی استغفار سو بار تک جا پہنچتی تھی۔  
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے  
نماز چاشت ادا فرمائی پھر سو مرتبہ یہ کہا اے میرے اللہ! مجھے معاف فرم اور میری توبہ  
قبول فرمابے تسلیک تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری ہبھٹر سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ  
والسلام نے فرمایا کہ میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس  
کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔

حضرت سعید بن الجراح اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے سے راوی ہیں کہ  
ہمارے ہاں رسول اکرم ﷺ تشریف لائے۔ در آنحضرت کہ ہم بھی بیٹھئے ہوئے اور  
موجود تھے تو آپ نے فرمایا کوئی صبح طلوع نہیں کرتی مگر میں اس میں سو مرتبہ استغفار  
کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا ہوں۔

چونکہ آپ ﷺ پر نبی سے نبی تجلیات نازل ہوتی رہتی تھیں جلی حسب  
استعداد محل ہوتی ہے اور آپ کی روحاںی استعداد مسلسل بڑھتی رہتی تھی اس لئے  
جب بعد کے مرتبے کو پہلے مرتبے کے مقابلے میں اعلیٰ دیکھتے تو مرتبہ قبل کو تقسیر کی  
طرف منسوب فرماتے تھے جیسا کہ فرمایا گیا کہ نیکوں کی حسنات مقریبین کی سیمات ہوتی  
ہیں یہ استغفار درج شکر میں تھا اور بلندی مراتب کا باعث تھا۔

آپ تمام احوال، احوال اور افعال میں کبار اور صغار سے کلیتاً معموم تھے  
اور آپ سے کسی قسم کی وعدہ خلافی یا حق سے جبکہ کا صدور ممکن ہی نہ تھا، قہرہ بہوا نہ  
صحت میں نہ مرض میں، نہ واقعۃ نہ مرا دینے میں، نہ خوش طبعی میں، نہ خوشی میں اور نہ  
نار انصگی میں، اس کے باوجود آپ ﷺ پر خشیت الہی کا غلبہ رہتا تھا۔ یہ حضور الہی  
میں تشكیر تھا اور انہمار بندگی تھا۔ اسی میں عبدیت کا کمال ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ ہم سے باتیں کرتے اور  
ہم آپ سے باتیں کرتے مگر جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ ﷺ کی حالت یہ ہو جاتی کہ  
گویا نہ آپ ﷺ ہمیں پچانتے ہیں اور نہ ہم آپ ﷺ کو پچانتے ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضور ﷺ جب آذان سننے تو آپ ﷺ کو  
یہ حالت ہو جاتی کہ گویا آپ کسی کو بھی نہیں پہچانتے۔

حضور ﷺ پر قرب الٰہی میں بعض اوقات ایسے بھی گزرتے تھے کہ آپ  
بجز ذات حق کے کسی کو نہ پہچان سکتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ "حضور  
ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آپ اس وقت حق تعالیٰ کی سعیت اور قرب کی  
تجالیات میں محو تھے۔ غلبہ حضور مع الحق کا یہ عالم تھا کہ آپ ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ کو  
نہ پہچان سکے اور دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ عرض کیا ابو بکر کی بیٹی، پھر بھی آپ کو اس  
حالت سے افاق نہ ہوا اور دریافت فرمایا کہ ابو بکر کون ہیں؟ عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے۔  
پھر آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ ابو قحافہ کون؟ تب حضرت عائشہ صدیقہ "پر دہشت  
و خوف کا غلبہ ہو گیا اور پچکے سے واپس ہو گئیں۔ پھر آپ کو اس حالت سے افاق ہوا تو  
حضرت عائشہ صدیقہ "نے سب ماجہہ کہہ سنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ!  
میرے اور میرے اللہ کے درمیان بعض مخصوص اوقات ہوتے ہیں جن میں مجھے ایسا  
قرب نصیب ہوتا ہے کہ اس مقام قرب میں نہ تو کسی نبی مرسل کی رسائی ہو سکتی ہے اور  
نہ کسی مقرب فرستے کی۔

ابنہ الحسن رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بارگاہ  
خداؤندی میں دعا اور گریہ وزاری فرماتے تو اپنے ہاتھ بلند فرماتے اور آگے پھیلائیتے  
جیسے مسکین کھانا طلب کرتے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں اور دست سوال دراز کرتے ہیں۔  
جب کبھی زور سے ہوا چلتی آپ ﷺ سم جاتے۔ کسی ضروری کام میں  
ہوتے تو اس کو چھوڑ کر قبلہ رخ ہو جاتے اور فرماتے خدا یا تیری بھیجی ہوئی مصیبت سے  
پناہ مانگتا ہوں۔ جب مطلع صاف ہو جاتا یا پانی برس جاتا تو مسرور ہوتے اور خدا کا شکر ادا  
فرماتے۔ ایک دن اس قسم کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عائشہ " نے پوچھا یا رسول اللہ  
ﷺ آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا عائشہ " تو نے قوم ہود کا واقعہ نیز  
پڑھا جس نے بادل دیکھ کر کہا کہ یہ ہمارے کھیتوں کو سیراب کرنے والا ہے حالانکہ وہ  
حد اسے: الٰہی، توا۔

حضرت ابو بکر بھڑک نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ کے بال سفید ہونے لگے ہیں۔ فرمایا مجھے سورہ هود، سورہ واقعہ، المرسلات اور رعنہ بتاءُ لے نے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں انبیاء ملکمِ اسلام، سابقہ امام اور قیامت وغیرہ کے واقعات مذکور ہیں۔ حضرت الی بن کعب بھڑک سے روایت ہے کہ جب دو شکٹ شب گزر چلتی تو باآواز بلند یہ الفاظ ادا فرماتے۔ ”لوگو خدا کو یاد کرو؛ زلزلہ آنے والا ہے اس کے پیچے آنے والا آرہا ہے، موت اپنے سامان کے ساتھ آپنی، موت اپنے سامان کے ساتھ آپنی“

حضرت عبد اللہ بن شحیر بھڑک بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ آپ ﷺ نماز میں مشغول ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس تدریخیں بندھ گئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہندیا ابلی رہی ہے۔

ایک بار آپ ﷺ ایک جنازہ میں شریک تھے۔ راہ میں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ بولے ہم مسلمان ہیں۔ ایک عورت بیٹھی چوہما سلاکاری تھی، پاس ہی اس کا لڑکا تھا۔ آگ خوب روشن ہو گئی اور بھڑک گئی تو وہ پچ کو لے کر آپ کی خدمت میں آئی اور بولی آپ ﷺ رسول اللہ ہیں؟ ارشاد ہوا ہاں! پھر اس نے پوچھا کیا ایک ماں اپنے پچ پر جس قدر مریان ہے، خدا اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مریان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یقیناً ہے۔ اس نے کہا تو ماں اپنے پچ کو آگ میں ڈالتی ہے آپ ﷺ پر گریہ طاری ہو گیا، پھر سرانجام کر فرمایا: خدا اس بندے کو عذاب دے گا جو سرکش اور باغی ہے۔

ایک دفعہ آپ ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی پروردگار ان بتوں نے بست سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ان میں سے جس نے میری پیروی کی وہی میری جماعت میں ہے اس کے بعد حضرت میتی علیہ السلام والی دعا پڑھی اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر معاف کر دے تو تو غالباً وہاں ہے۔ روایت میں ہے کہ دونوں ہاتھ اخاکر اللہُمَّ اسْتَغْفِرُكَ فرماتے جاتے اور آنکھوں سے آنسو

جاری تھے۔

حضرت مسیح بن معبد ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسالت آب ملٹیپل کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم اہل جاہلیت تھے اور بت پرسن اور اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کیا کرتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی۔ میں جب اسے بلا تاؤ وہ میرے بلانے پر بہت خوش ہوتی۔ میں نے ایک دن اس کو بلا یا تاؤ وہ میرے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تو میں چھار ہاتھ کے اپنے گھر سے کچھ فاصلہ پر ایک کنوں تھا۔ اس پر پیچ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کنوں میں پھینک دیا اور یہ شد کے لئے نگاہوں سے او جھل کر دیا اور اس کے آخری کلمات جو میرے کانوں میں پیچ کر سنائی دے رہے تھے وہ تھے۔ ہاتھ اتنا ہاتھ۔ اے ابا جان اے ابا جان کہہ رہی تھی (اگر میرا پتھر سے بھی زیادہ سمجھیں دل ذرا بھی متاثر نہ ہوا) آنحضرت ملٹیپل یہ واقعہ سن کر رو دیئے تھے کہ آپ ملٹیپل کے آنسو مبارک اچھل پڑے۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے اس کو کہا تو نے رسول خدا ملٹیپل کو حزن و ملال میں ڈال دیا ہے تو اس نے جواب میں کہا تم کوئی بات مت کرو۔ آپ خود ریافت فرمائیں گے کہ کس چیز نے آپ کو غمگین کیا ہے۔

جب اکرم ملٹیپل نے اسے فرمایا اپنی بات دھراو اور مجھے سنا تو اس نے دوبارہ قصہ سنایا تو آپ اس قدر آبدیدہ ہوئے کہ آنسوؤں نے آپ ملٹیپل کی داڑھی مبارک کو تر کر دیا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت اور زمانہ کفر کے اعمال سے در گذر فرمایا ہے۔ اب نئے سرے سے نیک اعمال اور صالح افعال کرو۔

حضرت ثابت بن سرح ہوئے فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم جیب اکرم ملٹیپل کی دعوات مبارکہ میں سے ایک دعا یہ تھی اے اللہ! مجھے ایسی آنکھیں عطا فرم اجوزہ زور سے برنسے والی ہوں اور برستے آنسوؤں کے ساتھ روئیں اور تیرے عذاب و عتاب سے خوفزدہ ہوں۔ پہلے اس کے آنسو خون بن جائیں اور داڑھیں انگارے یعنی عذاب نار میں بنتا ہونے سے قبل اس عذاب کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہو جائے تاکہ آنکھیں آنسوؤں کے ذریعے اس آگ اور اس کو ملاحظہ کرنے سے پہلے اس کے بچاؤ کی تدبیر کر لیں۔


حضرت علی ہبھٹ سے روایت ہے کہ میں عبد اللہ بن عمر اور عبید بن عمر  
رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت عبد اللہ  
رضی اللہ عنہما ہبھٹ نے عرض کیا اے ام المؤمنین! مجھے وہ عجیب ترین امر تلاوہ جو آپ نے رسول خدا  
ملئی ہبھٹ سے دیکھا ہو تو آپ روپڑیں اور فرمایا کہ آپ کے جملہ امور و افعال اور اعمال  
و اخلاق بست پیارے تھے۔ آپ ہبھٹ ایک رات میرے ہاں تشریف لائے حتیٰ کہ  
جب میرے ساتھ لحاف میں لیٹئے اور آپ ہبھٹ کا جسد اطراف میرے جسم سے مس ہوا تو  
فرمایا اے عائشہ! کیا مجھے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو تو  
میں نے عرض کیا مجھے آپ ہبھٹ کا قرب خداوندی پسند ہے اور جو آپ کی پسند ہے  
وہی مجھے پسند اور محبوب ہے۔ آپ ہبھٹ گھر میں کھڑے ایک ملکیزہ کی طرف متوجہ  
ہوئے اور وضو فرمایا مگر زیادہ پانی استعمال نہ فرمایا پھر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت  
کرنے لگے اور رونے لگے حتیٰ کہ آنسو مبارک اس فراوانی سے بننے لگے کہ آپ  
ہبھٹ کی ریش مبارک کو تر فرمادیا پھر آپ نے داہمیں پہلو کا سارالیا اور داہمیا ہاتھ  
մبارک رخسار کے نیچے رکھا اور روتے رہے حتیٰ کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو  
گئی۔ حضرت بلاں ہبھٹ حاضر ہوئے تماک نماز کے وقت اور جماعت کے متعلق عرض  
کریں آپ ہبھٹ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا آپ ہبھٹ رورہے ہیں حالانکہ  
اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب پہلوں اور پچھلوں کے گناہوں کی مغفرت کا دنیا میں اعلان  
فرمادیا ہے اور بخشش کا مژده جائز نہ ادا یا ہے؟ تو آپ ہبھٹ نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ  
کا شکر گزار بندہ نہ ہوں اور جتنا اس کا کرم کمیں اور احسان عظیم مجھ پر ہے اس کے  
مطابق شکر ادا نہ کروں پھر فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نہ روؤں؟

حضرت علی المرتضی ہبھٹ سے مردی ہے کہ میں نے میدان بدروالی رات  
دیکھا کہ ہم میں سے کسی نے قیام نہ کیا اور رات کو نوافل ادائیں کیے تھے۔ صرف  
رسول خدا ہبھٹ ایک درخت کے نیچے نماز ادا فرمار ہے تھے اور رو رہے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ ہبھٹ سے مردی ہے کہ ایک رات میں حضور اکرم ہبھٹ

کے ساتھ شریک صفر تھا تو آپ ﷺ نے بسم اللہ الرحمن الرحيم پڑھی اور روزئے اور  
ہس قدر روزئے کے روئے روئے زمین پر گر گئے۔ آپ نے میں (۲۰) مرتبہ اس آیت  
مقدسہ کو پڑھا اور ہر بار اس کثرت سے روئے کے زمین پر گر گئے اور آخری مرتبہ فرمایا:  
”وہ بہت ہی خائب و خاسر ہوا جس کو رحمن و رحیم نے اپنے رحم و کرم سے

محروم رکھا“



## باب هشتم

حضور مل نبیلہ کی محبت و تعظیم میں  
اصحاب کرام کے معمولات کا بیان



صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم السَّلَامُ اجمعین کا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ السلام  
والسلام کی تغییم و تقدیر میں غایت درجہ اہتمام فرماتے حضرت عمرو بن العاص ہوش  
فرماتے ہیں میری نظروں میں کوئی شخصیت نبی اکرم ﷺ سے زیادہ محظوظ نہ تھی اور  
اور نہ کوئی آپ ﷺ سے زیادہ بزرگ اور مرتبے والا تھا مگر آپ ﷺ کے رعب  
دبدبہ اور ہبہ و جالات کا یہ عالم تھا کہ میری کبھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ میں آپ ﷺ  
کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔

حضرت اسامة بن شریک رض فرماتے ہیں کہ میں جب بارگاہ رسالت میں  
حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حاضرین وہاں اس طرح ہے حس و حرکت بیٹھے ہیں جیسے ان  
کے سروں پر پرنڈے بیٹھے ہوں اور اگر انہوں نے ذرا بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں  
گے۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث بھی مروی ہے جس میں صحابہ نے خود بیان کیا ہے  
کہ ہم بارگاہ رسالت میں ایک طرح بیٹھتے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرنڈے بیٹھے  
ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آپ ﷺ کلام فرماتے تو حاضرین اپنی گرد نیں جھکا  
لیتے تھے۔

عمرو بن مسعود نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ صلح حدیث کے موقع پر میں کفار کم  
کا نمائندہ بن کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو میں صحابہ کرام کے والمانہ جذبہ سے بہت  
ستاٹر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ یہ جان ثمار حضور علیہ السلام و السلام کا غسلہ و ضو حاصل  
کرنے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے میں آپس میں لڑتے ہیں اگر آپ  
ﷺ اپنا مبارک لعاب دہن نیچے پھیکلتے تو صحابہ اس کو حاصل کر کے اپنے چروں پر ل  
لیتے۔ اگر حضور ﷺ کا کوئی بال مبارک ہاتھ آتا تو اسے محفوظ کر لیتے۔ اگر ان میں

سے کسی کو کوئی حکم دیتے تو فوراً قیل ہوتی جس وقت حضور علیہ السلام کلام فرماتے بالکل تناءاً چھا جاتا اور سب کلام نبوی ﷺ کو غور سے سنتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی عزت و توفیق ایسی کرتے ہو دوسروں کے لئے قابل تقلید ہو ادب کا یہ عالم تھا کہ صحابہ نظریں پنچی رکھتے اور حضور علیہ السلام کی جانب نظریں اخانتے تھے۔

عروہ نے یہ منظود بیکھا تو کفار مکہ کو جا کر ہتایا کہ میں نے قیصر و کسری کے دربار بھی دیکھیے ہیں جب شہ کا دربار بھی دیکھا ہے لیکن خدا کی قسم جو منظر میں نے دربار نبوی کا دیکھا ہے کیسی نظر نہ آیا۔ محمد مصطفیٰ ﷺ کے جان ثاروں جیسے جان ثار مجھے کیسی نظر نہ آئے یہ وہ قوم ہے جو اپنی مقتندر شخصیت کو کسی کے حوالہ نہیں کر سکے گی۔

حضرت انس رض نے اپنا شاہدہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بال ترشوار ہے تھے اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے کھڑے تھے تاکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے موئے مبارک کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی حاصل کر لیں۔

جانب حضرت عثمان بن عفان رض صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی جانب سے سفیر بن کرکم حکمرم تشریف لے گئے تو ایں مکنے آپ سے کہا کہ آپ طواف کعبہ کر سکتے ہیں لیکن غیرت عثمانی نے یہ گوارانہ کیا کہ وہ تہا طواف کریں۔ آپ نے واشگاف الفاظ میں فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کے بغیر طواف کعبہ کروں۔ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر لیں اس کے بعد میں کروں گا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رض نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ کاشانہ نبوت پر حاضر ہوتے تو فرط ادب سے دروازہ ناخنوں سے لٹکھاتے تھے۔

حضرت براء بن عازب رض نے فرمایا کہ کمی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا چاہتا تھا مگر تک موقud کی تلاش میں رہتا تھا لیکن ادب کی وجہ سے دریافت نہ کر سکتا تھا اور اس میں برسوں گزر جاتے تھے۔

حضرت صفیہ بنت نجدہ رض فرماتی ہیں کہ جناب ابو مخدورہ " کے سر کے اگلے حصہ کے بال اس قدر لبے تھے کہ اگر بینھے بینھے ان کو کھولتے تو وہ زمین سے لگ

جاتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان کو کٹواتے کیوں نہیں تو آس عاشق رسولے  
جو اب دیا کہ ان سے ایک یادگار وابستہ ہے ان کو کس طرح کٹا سکتا ہوں ان بالوں کو  
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے چھو اتھا۔

حضرت خالد بن ولید سيف اللہ رض کی نوپی میں حضور علیہ السلام کے چند  
موئے مبارک تھے اتفاقاً وہ نوپی کسی جہاد میں گرفتاری اس کو اٹھانے کی حضرت خالد رض  
نے بہت کوشش کی اور اس سلسلہ میں چند صحابہ بھی شہید ہو گئے بعد میں جب لوگوں نے  
ان سے شکایت کی اور اس نوپی کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت خالد نے فرمایا کہ  
اس نوپی کی بذات کوئی اہمیت نہ تھی لیکن اس میں نعمت بے بام سور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے  
موئے مبارک تھے اور اس کے حصول کی غرض وغایت میں دو امور پہاں تھے ایک تو یہ  
کہ وہ نوپی کفار و شرکیں کے ہاتھ نہ لگ جائے اور دوسرے یہ کہ میں ان موئے  
مارک کی برکتوں سے محروم نہ ہو جاؤں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رض کا یہ معمول تھا کہ وہ بستر نبوی کی اس جگہ کو  
جام حضور تشریف فرمایا ہوا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے چھوتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے  
چہرے پر مل لیتے تھے۔

حضرت سل بن سعد ساعدی رض فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں صلح کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔ اتنے میں نماز کا  
وقت ہو گیا۔ موذن نے حضرت ابو بکر رض کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کیا آپ  
نماز پڑھا دیں گے آپ نے فرمایا ہاں۔ بس فوراً اقامت ہو گئی اور حضرت ابو بکر رض  
لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ چنانچہ  
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے صاف اول میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے  
ہاتھ پر ہاتھ مارے لیکن ابو بکر رض نماز میں کسی اور جانب التفات نہ فرماتے تھے  
یعنی کامل محیت کا عالم ہوتا تھا۔ جب تالیوں کی آواز زیادہ ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پیچھے ہٹئے کا ارادہ کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ  
یر قائم رہو۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں انھا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

انہیں امامت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رض پیچھے ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر امامت کرائی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رض سے فرمایا جب میں نے حکم دے دیا تھا تو تم مسلے پر کیوں نہ نہ سمجھے حضرت ابو بکر رض نے عرض کیا ابی قحاف کے بیٹے کو یہ کب سزاوار ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امامت کرائے۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس کی کیا وجہ کہ میں نے تمیں (مکھرت) تالیاں بجاتے دیکھا اگر کسی کو نماز میں کوئی ضرورت پیش آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ سبحان اللہ کے گاؤ تو اس کی طرف التفات کیا جائے گا (امام اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا) اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف عورتوں کے لئے مخصوص ہے۔ (صحیح بخاری)

بخاری شریف میں ہی حضرت انس رض سے مردی ہے کہ ایام و صال میں جب کہ نماز کی امامت کے فرائض سیدنا صدیق اکبر رض کے پرد تھے سو موارکے روز جبکہ تمام صحابہ کرام صدیق اکبر رض کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرے افاقت محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجرہ مبارک کا پردہ انحا کر ہمیں دیکھنا شروع فرمایا (ہم نے دیکھا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکرا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھا انور قرآن کے ورق کی طرح پر نور تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار فرحت آثار کے بعد اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خوشی میں ہم نے ارادہ کر لیا کہ نماز کو بھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہی میں محو ہو جائیں۔ صدیق اکبر رض یہ خیال کرتے ہوئے مغلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ آئے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ ان پر کیف لمحات کی منظر کشی بخاری شریف میں ان الفاظ میں کی گئی ہے جب پردہ ہٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھا انور سامنے آیا تو یہ اتنا حسین اور دلکش منظر تھا کہ ہم نے پلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا مسلم شریف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خوشی میں ہم بہوت ہو کر رہ گئے۔  
امام ترمذیؓ کی روایت کے الفاظ ہیں۔

قریب تھا کہ لوگوں میں اضطراب پیدا ہو جاتا تھا کہ آپ مولانا نے فرمایا  
”اپنی جگہ کھڑے رہو۔“

شیخ ابراہیم بنجوری ”اس موقع پر صحابہ کرام کے اضطراب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ صحابہ کرام آپ مولانا کے شفایا ب ہونے کی خوشی میں متحیر ہو جاتے تھی کہ انہوں نے نماز تو زنے کا ارادہ کر لیا اور سمجھے کہ شاید ہمارے آقا نماز پڑھانے باہر تشریف لارہے ہیں۔ لہذا ہم محراب تک کا راستہ خالی کر دیں چنانچہ بعض صحابہ خوشی کی وجہ سے کوڈ پڑے۔  
امام بخاری نے باب الالتفات فی الصلوٰۃ کے تحت صحابہؓ کی وہیانہ کیفیت کو ان الفاظ بیان کیا ہے۔

”اوّر مسلمانوں نے نماز ترک کرنے کا ارادہ کر لیا یہاں تک کہ آپ مولانا نے نماز پورا کرنے کا حکم دیا۔“ مولانا احمد علی سارپوری نے اس روایت کا ترجمہ اور فوائد ان الفاظ بینی کر کے ہیں۔

”مسلمانوں نے آپ مولانا کی صحت کی خوشی اور سرور میں اپنی نمازیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔“ یہ روایت واضح کر رہی ہے کہ پردے کے پشتے ہی صحابہ کرام نے اپنی توجہ کاشانہ بیوی کی طرف کر دی تھی کیونکہ اگر صحابہ کرام اس طرف متوجہ نہ ہوتے تو آپ مولانا کے اشارے کو نہ دیکھ سکتے حالانکہ انہوں نے آپ مولانا کے اشارے کو دیکھ کر اپنی نماز پوری کی۔





## باب نهم

حضرور ﷺ کے  
مجراات و تصرفات کا بیان



۱۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھہ کفار کے مطابعے پر چاند کے دو نکلے کے کردیئے ایک نکلا پہاڑ کے اوپر آگیا تھا اور دوسرा نکلا پہاڑ کے نیچے اور آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو اگوا رہنا۔

امام مسروق<sup>ؑ</sup> نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شق القمر کا مجھہ مکہ مطہم میں واقع ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قریش نے اس وقت کما تھا کہ جادو کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص بولا کہ اگر محمد ﷺ نے چاند پر جادو کر بھی دیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے ساری زمین کو اپنے جادو کی لپیٹ میں لے لیا ہو لہذا ہمیں چاہیے کہ دوسرے شہروں کے جو لوگ یہاں آتے ہیں ان سے دریافت کریں کہ انہوں نے بھی چاند کے دو نکلے دیکھے ہیں یا نہیں۔ جب انہوں نے آنے والے لوگوں سے پوچھا تو وہ بھی چاند کے شق ہونے کی شادوت دیتے تھے۔

اس کے مطابق امام سرقندی<sup>ؑ</sup> نے "ضحاک" سے روایت کیا ہے اور کہا کہ ابو جمل کرنے لگا کہ یہ جادو کر دیا گیا ہے لہذا آس پاس کے لوگوں کے پاس آدمی بھیج کر صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اردو گرد کے لوگوں نے بھی یہی بتایا کہ ہم نے چاند کے دو نکلے دیکھے تھے اس پر کفار کرنے لگے کہ یہ قدیمی جادو ہے جو ایک مدت سے چلا آرہا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر کئی صحابہ کرام سے بھی یہ واقعہ مردی ہے جن کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ (۱) حضرت انس (۲) حضرت عبد اللہ بن عباس (۳) حضرت عبد اللہ بن عمر (۴) حضرت حذیفہ (۵) حضرت علی المرتضی (۶) حضرت جیسر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

ابی حذیفہ ارجمند کی روایت میں ہے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ و جہا  
الکریم نے فرمایا کہ جب چاند کے دو نکلوے کے گئے تھے تو ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ  
تھے۔ حضرت انس بن میری سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم ﷺ سے نشانی  
طلب کی تھی تو آپ نے چاند کے دو نکلوے کر دکھائے ایک نکلا پہاڑ کے اس طرف تھا۔  
اور دوسرا اس جانب۔ اس وا قعہ کو حضرت انس بن میری سے امام قادہؑ نے بھی روایت  
کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے چاند کے دو نکلوے کر کے تاکید کے ساتھ کفار کو  
دکھائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ **إِقْرَأْ إِنَّمَا مِنْ أَنْوَحِ الْأَرْضِ مَا  
يُنَزَّلُ إِلَيْكُمْ وَمَا يُنَزَّلُ إِلَيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَافِ**  
خبر کو حضرت جبیر بن مطعم سے ان کے بیٹے محمد اور ان سے ان کے فرزند جبیر بن محمد  
بن میری نے روایت کیا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس سے عبید اللہ بن عتبہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے  
امام مجاهد نے اور حضرت حذیفہ سے عبد الرحمن السلمی اور مسلم بن ابی عمران الذوی  
بن میری نے بھی روایت کیا ہے۔

۲۔ امام ابو جعفر طحاویؑ نے دو سندوں کے ساتھ حضرت اسماء بنت عمیس رض سے  
اپنی کتاب مشکل الحدیث میں تخریج کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنا سر مبارک حضرت علی  
المرتضیؑ کی گود میں رکھ کر آرام فرمائے تھے اور حضرت علی بن میری نے نماز عصر  
ادا نہیں کی تھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ بیدار ہونے سے سرور کون و مکان  
ﷺ نے دریافت فرمایا۔ اے علی تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ عرض گزار ہوئے  
۔ آقا نماز عصر تا حال نہیں پڑھی۔ فخر دو عالم ﷺ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ  
خداؤندی میں عرض گزار ہوئے۔ اے ذوالمنی یہ تیری اطاعت اور تیرے رسول کی  
اطاعت میں مشغول تھا اس کے لئے سورج کو واپس پھیر دے (تاکہ یہ نماز عصر ادا  
کرے)۔

حضرت اسماء رض کا بیان ہے کہ غروب ہونے کے بعد سورج کو مغرب سے  
طلوع ہوتے ہوئے دیکھا گیا اور اس نے پہاڑوں اور زمین پر اپنی دھوپ بکھیر دی یہ  
واقعہ خیر کے راستے میں منزل صائمیں پیش آیا تھا۔ امام طحاویؑ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں

حدیثیں صحیح و ثابت ہیں اور ان کے راوی معتبر و ثقیل ہیں۔ امام طحاویؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ احمد بن صالحؓ فرماتے ہیں کہ جسے علم کی ہوا لگی ہو اسے حدیث اسماء کی صحت کا انکار زیب نہیں دیتا اس لئے کہ یہ روایت علامات نبوت میں سے ہے۔

۳۔ یونس بن بکرؓ نے اپنی کتاب زیادۃ المغازی میں ابن اسحاقؓ کی روایت نقل کی ہے کہ جب سرور کون و مکان ملکیتیہ کو مسراج ہوئی اور آپؐ نے قوم کو ان کے استفارا پر ان کے قافلے اور اونٹوں کی خبر سی دیں تو انہوں نے پوچھا وہ کب پہنچیں گے؟ آپؐ نے جواب دیا، وہ بدھ کے روز یہاں پہنچ جائیں گے جب بدھ کا روز آیا تو قریش کے سردار ان ان کا انتظار کرنے لگے۔ دن نتم ہونے کو تھا لیکن تقریباً ایک پھر آپؐ کی غاطر ٹھہر ارہا یہاں تک قافلے پہنچ گئے۔

۴۔ آپؐ کی انگشت ہائے مبارک سے پانی جاری ہونے کی حدیث کو صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں سے حضرت انس، حضرت جابر اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں۔

قاضی عیاضؓ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق ابراہیم بن جعفرؓ نے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ اسحاق بن عبد اللہ بن الجلوؓ نے حضرت انس بہبڑ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ملکیتیہ کو اس حال میں دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے لوگ پانی کے لئے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں لیکن کہیں پانی نہیں ملتا۔ رسول اللہ ملکیتیہ نے پانی منگوایا (جو قطرہ قطرہ اکٹھا کر کے پیش کیا گیا) آپؐ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس پانی سے وضو کرتے جاؤ۔ حضرت انس بہبڑؓ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپؐ کی انگلیوں سے پانی اہل رہا تھا لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا اور اول سے آخر تک تمام لوگ وضو کر کے فارغ ہو گئے۔

اس حدیث کو حضرت انس بہبڑ سے امام قادہؓ نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں ہے کہ جب سرور کون و مکان ملکیتیہ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو اتنا تھا کہ انگلیاں ڈوب جاتیں یا ذوقی نہ تحسی۔ قادہؓ نے پوچھا کہ اس وقت آپؐ کتنے حضرات تھے تو حضرت انس بہبڑؓ نے جواب دیا کہ تین سو کے قریب تھے۔

۵۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جو حضرت علقمؓ کے طریقے سے ہے وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اس میں ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا فخر دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ جس کے پاس جتنا بھی پانی ہے (خواہ چند قطرے ہی کیوں نہ ہوں) یہاں لے آئے چنانچہ جن کے پاس تھوڑا بہت پانی نکلا وہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے سب پانی ایک برتن میں الٹھا کر لیا اور اپنا دست مبارک اس برتن میں ڈال دیا۔ فوراً آپ کی انگشت ہائے مبارک سے (چشموں کی طرح) پانی التھنے لگا۔

۶۔ صحیح بخاری میں سالم بن ابی الجعدؓ کے طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے روز ہم پر تسلی غائب ہو گئی (کیونکہ پانی ختم ہو گیا تھا) بارگاہ رسالت میں ایک چھاگل کے اندر پانی پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے وضو فرمانا شروع کر دیا لوگ دوڑ کر عرض گزار ہوئے کہ حضور! اس کے علاوہ ہمارے پاس اور پانی نہیں ہے آپ نے چھاگل پر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو انگشت ہائے مبارک سے پانی کے چھٹے بھوت نکل۔ سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس وقت کتنے حضرات تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم لا کہ بھی ہوتے تو پانی ہم سب کے لئے کافی ہوتا لیکن اس وقت ہم پندرہ سو تھے۔

۷۔ صحیح مسلم میں غزوہ بواط کے متعلق وہ حدیث ہے جس کو ولید بن عبادہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے جابر! اوضو کے لئے لوگوں کو بلا لو۔ آگے طویل حدیث بیان کی کہ پانی کی ایک پرانی مسکن سے صرف چند قطرے مل سکے تھے جو بارگاہ رسالت میں پیش کئے گئے آپ نے وہ پانی لے کر کچھ پڑھا اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیا پڑھا تھا اور حکم فرمایا کہ لوگوں کو آواز دو تاکہ وہ نہ لائیں۔ چنانچہ نب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا اور آپ نے اپنا دست مبارک نب میں رکھ کر انگلیاں پھیلایاں میں نے وہ پانی نب میں ڈال دیا اور آپ نے بسم اللہ پڑھی میں نے دیکھا کہ آپ کی انگشت ہائے مبارک کے درمیان سے پانی پوری تیزی کے ساتھ امل رہا تھا پھر نب کا پانی بھی نوش مارنے اور گھونٹنے لگا یہاں تک کہ وہ برتن

باب بھر گیا آپ نے لوگوں کو پانی پینے کا حکم دیا اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ جب آپ نے آواز دی کہ ایسا کوئی شخص باقی ہے جسے پانی کی حاجت ہو جب ایسا کوئی آدمی نہ آیا تو رسول اللہ ﷺ نے اپنا دست مبارک کھینچ لیا اور اس وقت شب بھرا ہوا تھا۔

-۸۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے الموطایمین حضرت معاذ بن جبل ہبھٹ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ تبوك کے وقت شکرِ اسلام ایسے چشمے پر فروکش ہوا تھا جو برائے نام بہ رہا تھا صحابہ کرام ہاتھ سے پانی روکتے جب بچھ پانی جمع ہو جاتا تو کسی برتن میں ڈال لیتے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس چشمے پر آکر منہ ہاتھ دھوئے اور مستعمل پانی اسی میں ڈالتے گئے جس کی برکت سے پوری تیزی کے ساتھ چشمہ رواں دواں ہو گیا اور سب لوگ سیراب ہو گئے۔ ابن اسحاقؓ کی روایت ہے کہ پانی اتنی تیزی سے بننے لگا تھا کہ اس کی آواز گرج کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے معاذ! اگر تیزی زندگی رہی تو اس جگہ باغ ہی باغ دیکھے گا۔

-۹۔ واقعہ حدیبیہ میں ابن شاہب ہبھٹ سے مردی ہے کہ آپ نے تکش سے ایک تیر نکلا اور اسے ایک گڑھے کے وسط میں نصب کر دیا۔ اس سے اتنا پانی نکلا کہ سب نے پیا اور اپنی سواریوں کو بھی خوب پانی پلا کر ان کے بخانے کی جگہ تلاش کرنے لگے کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تھا۔

-۱۰۔ حضرت ابو ایوب انصاری ہبھٹ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے فخرِ دو عالم ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق ہبھٹ کی دعوت کی اور صرف اتنا کھانا تیار کیا جو دونوں حضرات کے لئے کافی ہو جائے کھانے کے وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انصار میں سے تیس معززین کو اور بلا لمحجے جب وہ تیس کھانا کھا کر چلے گے تو کھانا اتنا ہی موجود تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سانچھ آدمیوں کو اور بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ بھی بلاۓ گئے پھر فرمایا ستر آدمی اور بلا لاؤ۔ وہ بھی آگئے اور شکم سیر ہو کر کھا گئے لیکن پھر بھی اتنا ہی موجود تھا۔ یہ مخبرہ دیکھ کر جتنے آدمی دعوت میں شامل ہوئے تھے سبھے آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ حضرت ابو ایوب انصاری ہبھٹ فرماتے ہیں کہ اس روز میرے گھر میں ایک سو اسی آدمیوں نے کھانا کھایا تھا۔

۱۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے اچانک ایک اعرابی آگیا آپ نے دریافت فرمایا۔ اے اعرابی! کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ اعرابی نے جواب دیا کہ اہل و عیال کے پاس جا رہا ہوں۔ پوچھا کیا تجھے اپنی بھلائی درکار ہے؟ اس نے کہا وہ کیسی بھلائی ہے؟ فرمایا تمہری بھلائی اس میں ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کے اللہ تعالیٰ کے سو اکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کی گواہی دے کے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی ان باتوں کی گواہی دینے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میدان کے اس کنارے پر جو یکر کا درخت کھڑا ہے یہ بھی میری گواہی دیتا ہے چنانچہ بلانے پر وہ درخت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس کی تین مرتبہ اس نے تصدیق کی اور پھر اپنی جگہ لوٹ گیا۔

۱۲۔ حضرت بریدہ رض فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ سے مجھہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا: اس درخت کو جا کر کہہ دو کہ تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ حضرت بریدہ رض فرماتے ہیں کہ درخت یہ حکم سنتے ہی آگے پیچھے اور دائیں باسیں بھلا اس سے اس کی جزا کھڑگی۔ پھر وہ زمین کو چیرتا اپنی جڑیں گھینٹا اور مٹی اڑاتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا۔ اسلام علیک یا رسول اللہ! اعرابی نے کہا کہ آپ اس درخت کو اپنی اصلی جگہ پر لوٹ جانے کا حکم دیجئے۔ چنانچہ درخت اپنی اصل جگہ لوٹ گیا جڑیں جم گئیں اور وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔

بعد ازاں اعرابی عرض گزار ہوا کہ مجھے اپنے لئے سجدہ کرنے کی اجازت مرحت فرمائی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مخلوق میں سے کسی کے لئے سجدہ کرنے <sup>۲</sup> میں حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کریں۔ اس کے بعد اعرابی نے انجام کی کہ مجھے اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو چومنے کی اجازت مرحت فرمائی جائے۔ چنانچہ آپ نے اس امر کی اجازت دے دی۔

۱۳۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جابر رض سے فرمایا

کہ فلاں درخت سے جا کر کہ دو کہ تم اس دو سرے درخت سے جا کر مل جاؤ تاکہ تمہاری آڑ میں رسول اللہ ﷺ بینہ سکیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے ارشاد عالیٰ کی تعمیل کی۔ چنانچہ وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا اور دو سرے درخت سے جا کر مل گیا سرور کون و مکان ﷺ ان درختوں کے پیچھے جا کر بینہ گئے اور میں پرے چلا گیا اور بینہ کر شان رسالت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں نے پٹ کر دیکھا تو فخر دو عالم ﷺ تشریف لا رہے تھے پس دونوں درخت اپنے اپنے تنے پر سیدھے کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے ذرا توقف کے بعد اپنے سر مبارک سے دائیں اور بائیں جانب اشارہ فرمایا تو وہ درخت والپس اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔

۱۴۔ ابن فورک رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ غزوہ طائف میں رسول اللہ ﷺ ایک جانب محیت کی حالت میں تشریف لے جا رہے تھے کہ سامنے پیری کا درخت آگیا آپ کو دیکھ کر پیری کا درخت خود پھٹ گیا اور آپ کے لئے راستہ بنادیا آپ اس کے درمیان سے گزر گئے اور ہمارے زمانے تک وہ اسی حالت میں دوشاخہ ہے دوسرے دور تک اس درخت کی شرت ہے لوگ اس کی تعظیم اور زیارت کرتے ہیں۔

۱۵۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہمہ اس کی تخریج کی ہے اور دوسرے زیادہ صحابہ کرام نے اسے روایت کیا ہے جن میں حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت سمل بن سعد، حضرت ابو سعید خدری، حضرت بریدہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت مطلب بن ابی دواع رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں۔ یہ تمام حضرات اس حدیث کو معنا روایت کرتے ہیں اور ترمذی نے کہا ہے کہ حضرت انس بن میشی کی حدیث صحیح ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ بن میشی فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی پر کھجور کی لکڑیوں کی چھت ڈالی ہوئی تھی تو رسول اللہ ﷺ ایک ٹوکھی لکڑی کے ساتھ نیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو ہم نے اس ستون کی اس طرح نگری یہ زاری سنی جیسے پچھتے والی اوپنی واپیا کرتی ہے۔

حضرت انس بن میشی کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ منبر شریف پر

جلوہ افروز ہوئے تو ستون بیل کی طرح چلانے لگا۔ یہاں تک کہ اس کی آواز سے مسجد گونج انٹھی۔ حضرت سمل بن سعد بیوی کی روایت میں ہے کہ ستون کے رومنے کی آواز سن کر تمام حاضرین بھی رومنے لگے۔

حضرت مطلب بن الی و دادعہ اور حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ ستون ایسا بھوٹ پھوٹ کر کر رویا کہ پھٹ گیا اور جب نبی کریم ﷺ نے اپنا دست شفقت اس پر رکھا تو غاموش ہوا۔ دیگر حضرات کی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ نقدان ذکر کے باعث روتا ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قادر ہے میری جان ہے اگر حبیب پروردگار اسے مینے سے نہ لگاتے تو آپ کی جداگانی میں وہ قیامت تک برابر روتا رہتا ہے پس رسول اللہ ﷺ کے حکم سے اس ستون کو منبر شریف کے نیچے دفن کر دیا گیا جیسا کہ حضرت مطلب بن الی و دادعہ، حضرت سمل بن سعد کی روایتوں اور حضرت انس رض کی روایت میں ہے جو احتجاج علیہ الرحمة کے طریق سے ہے۔

حضرت سمل بن سعد بیوی کی روایت میں ہے کہ وہ منبر رسول کے نیچے دفن کیا گیا اور بعض طریق میں یہ ہے کہ مسجد نبوی کی چھت میں لگادیا گیا۔

امام اسفارائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے روٹے ہوئے ستون کو بلا یا تو وہ پک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور رحمت دو عالم ﷺ نے ۴ سے مینے سے لگایا اس کے بعد اسے واپس لوٹنے کا حکم دیا تو واپس چلا گیا۔

حضرت بریدہ رض کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ستون کو ترتیب پتے اور بلکہ ہوئے دیکھ کر اس سے فرمایا:

اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی بلوغ میں لوٹا دوں جس میں تو پہلے تھا۔ وہاں تجھے میں شاخیں نکل آئیں اور مکمل درخت بن جائے اور تیرے اوپر پھل پھول آئیں اور اگر تو چاہے تو میں

ان شَّهْتَ ارْدَكَ إِلَى الْحَائِطِ الَّذِي  
كُنْتَ فِيهِ تَبَتَّلُ لَكَ عَرْوَقَكَ وَ  
يَكْمِلُ خَلْقَكَ وَ لَجَدَرَ الْكَ  
خُوصَ وَ ثُمَرَةَ وَ ان شَّهْتَ اغْرِسَكَ  
فِي الْجَنَّةِ فِي أَكْلِ اُولَيَاءِ اللَّهِ مِنْ

جنت میں تجھے لگا دوں اور اولیاء اللہ  
تیرا پھل کھائیں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے اس کی جانب کان لگائے کہ جواب  
کیا دیتا ہے۔ جواب دیا مجھے جنت میں  
لگا دیجئے تاکہ اولیاء اللہ میرے پھل  
کھائیں اور پرانا ہونے سے بچ جاؤں  
نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں نے یہ  
کام کر دیا۔ پھر فرمایا اس نے فانی گھر  
چھوڑ کر باقی رہنے والی گھر پرند کیا۔

ثمر ک ثم اصغى له النبي ﷺ  
بستمع ما يقول فقال بل تغرسني في  
الجنة فياكل مني اولياء الله و  
اكون في مكان لا ابللي فيه فسمعه  
من يليه فقال النبي ﷺ فقد  
 فعلت ثم قال اختار دار البقاء على  
دار الفنا

امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو زار و قطار  
روئے لگتے اور کہتے خدا کے بندواجب خلک لکڑی منصب رسالت کی عظمت کو مد نظر  
رکھتے ہوئے آپ کے فرقا میں اتنا روئی تو ہمیں آپ کی ریارت، کاشتیاق بد رجہ ازیادہ  
ہونا چاہیے۔

۱۶۔ قاضی ابو عبد اللہ محمد بن عیینی تیسی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت  
عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب  
کھانا تاول فرماتے تو ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ اسی طرح اس کے علاوہ دوسری  
روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ  
کھانا لھاتے تو کھانے کی تسبیح صنا کرتے تھے۔

۱۷۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کون و مکان نے ایک  
ٹھیک بھر کنکریاں اپنے دست اندس میں لیں تو انہوں نے آپ کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھنا  
شروع کر دی اور ہم نے خود اپنے کانوں سے ان کا تسبیح پڑھنا۔ پھر آپ نے وہ حضرت  
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیں تو تب بھی وہ تسبیح پڑھتی رہیں پھر ہمارے ہاتھوں میں بھی  
دے دیں فرم بھی وہ تسبیح پڑھتی رہیں۔ اسی طرح کنکریوں نے حضرت عمر اور حضرت  
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھی۔

۱۸۔ حضرت علی بن ابی ذئب فرماتے ہیں۔  
 کتاب مکہ مع رسول اللہ فرج الی  
 بعض نواحیها فیما استقبلہ شجرۃ و  
 لا جبل الا قال له السلام عليك  
 یا رسول اللہ

ہم مکہ مکہ میں رسول اللہ ﷺ  
 کے ہمراہ تھے تو آپ اس کی ایک  
 جانب تشریف لے گئے پس جو  
 درخت اور پہاڑ بھی آپ کے سامنے  
 آتا وہی آپ کی خدمت میں سلام  
 عرض کرتا اور السلام عليك یا رسول  
 اللہ کرتا۔

۱۹۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رض سے روایت ہے۔  
 جب سے جبریل علیہ السلام میرے پاس  
 پیغام رسالت لائے۔ اسی وقت سے یہ  
 حالت ہے کہ میں جس پتھریا درخت  
 کے پاس سے گزرتا ہوں وہی یوں  
 سلام عرض کرتا ہے۔ السلام عليك یا  
 رسول اللہ اور جابر بن عبد اللہ بن ابی  
 سے روایت ہے کہ نبی کریم کی میت رض  
 جس پتھر اور درخت کے پاس سے  
 گزرتے وہی آپ کے لئے مجده  
 کرتا۔

لما استقبلنی جبریل علیہ السلام  
 بالرسالة لا امر بعمر ولا شجر الا  
 قال السلام عليك يا رسول اللہ و  
 عن جابر بن عبد اللہ رض لم  
 يكن النبي ﷺ يأمر بعمر ولا  
 شجر الا سجده له

۲۰۔ حضرت عباس بن ابی ذئب سے روایت ہے کہ فخر دو عالم رض نے مجھے اور میری  
 اولاد کو ایک چادر میں چھپایا اور بارگاہ خداوندی میں التجاکی اے اللہ اانہیں دوزخ کی  
 آگ سے اس طرح چھپالیا جیسے میں نے انہیں گپڑے میں چھپایا ہے۔ اس پر گھر کے  
 درود یوار سے آمین، آمین کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔

۲۱۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد، امام محمد باقرؑ سے روایت

کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انہوں اور انگوروں سے بھرا ہوا ایک طشت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان میں سے تھوڑے سے لکھائے اور وہ انہا اور انگور تسبیح بیان کر رہے تھے۔

۲۲۔ حضرت انس بن میری سے مروی ہے کہ حضور ﷺ احمد پیاز پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رض تھے۔ پیاز مارے ہبیت کے قدر تھا نے لگا۔ سرور کون و مکان ﷺ نے فرمایا اے پیاز اقرار پکڑ کیونکہ تیرے اور پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

۲۳۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر تین سو سانچہ بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے پیور انگ کے ساتھ پھرولوں میں جمائے تھے۔ جس سال مکہ مکرمہ فتح ہوا اور سرور کون و مکان ﷺ اس کے اندر داخل ہوئے تو آپ ایک چھٹری کے ساتھ اشارہ فرماتے جاتے تھے جو آپ کے دست اقدس میں تھی اور کسی بت کو مطلقاً با تھنہ نہ لگایا اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے جاتے تھے:  
**جَاءَ الْعَقْ وَ زَهْقَ الْبَاطِلِ إِنْ حَقٌّ آمِيَا اُوْ بَاطِلٌ مُثْكِيَا بَطْلَ كَانَ زَهْقًا**

(بی اسرائیل، ۷:۸۱)

جس بت کے چرے کی جانب اشارہ فرماتے وہ پیچھے کی جانب گر جاتا اور جس کی پیچھے کی طرف اشارہ فرماتے وہ منہ کے مل زمین پر آگر تماہاں تک کہ ایک بت بھی اپنی جگہ کھڑا نہ رہ سکا۔

۲۴۔ اسی طرح حضرت عبد اللہ بن مسعود بن میری سے مروی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ بتوں کو تھوکر مارتے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ اب حق آگیا ہے لذانہ باطل ظاہر ہو گا اور نہ لوٹ کر آئے گا۔

اسی طرح کا واقعہ آپ کو لڑ کپن میں بھیرہ راہب کے ساتھ پیش آیا جب آپ اپنے پچا جناب ابوطالب کے ہمراہ شام کی جانب بغرض تجارت جا رہے تھے۔ وہ راہب کسی شخص سے نہیں ملتا تھا لیکن آپ کو دیکھ کر باہر قافلے میں پھر تارہا اور رسول

الله ملکِ تھیم کا دست اقدس پکڑ کر کنے لگا یہ کائنات کے سردار ہیں۔ انہیں رحمت دو عالم ملکِ تھیم بنا کر مبعوث فرمایا جائے گا۔ سردار ان قریش نے دریافت کیا کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ کوئی درخت اور کوئی پھر ایسا نہیں جوان کے لئے بجدہ نہ کرتا اور نبی کے سوا کسی دو سرے کی اس درجہ تعظیم نہیں کی جاتی۔

۲۵۔ اس کے بعد رادی نے باقی واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ میں انہیں مہربوت کے باعث پچانتا ہوں جو ان کے دونوں شانوں کے درمیان سیب کی طرح ہے۔ پھر وہ لوٹ گیا اور کھانا لے کر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ اونٹ چرانے کے لئے گئے ہوئے تھے۔ اس نے آپ کو بلوانے کے لئے کما جب آپ تشریف لارہے تھے تو بادلوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا جب آپ قریب آگئے تو دیکھا کہ تمام قافلے والے درخت کے سامنے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو دیکھ کر درخت کا سایہ آپ کی طرف ہو گیا۔

۲۶۔ قاضی عیاض کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے سراج بن عبد الملک<sup>ؑ</sup> نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ<sup>ؓ</sup> سے روایت کیا ہے کہ ہم نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ جب نبی کریم ملکِ تھیم میرے پاس تشریف فرمائے تو آپ کی تعظیم و تقدیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے بکری چپ چاپ کھڑی رہتی اور اتنی دیر ادھر ادھر حرکت نہ کرتی تھی جب آپ تشریف لے جاتے تب کوئی حرکت کرتی تھی۔

۲۷۔ حضرت عمر بیوش سے مردی ہے کہ ایک روز سرور کون و مکان ملکِ تھیم اپنے اصحاب کے درمیان جلوہ افروز تھے کہ ایک اعرابی آگیا جس نے گوہ پکڑی ہوئی تھی اس نے (شم مغلل) نبی اکرم ملکِ تھیم کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہیں لوگوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کمالاتِ عزیزی کی تسمیں ان پر ہر گز ایمان نہیں لاوں گا جب تک یہ گوہ ایمان نہ لے آئے۔ یہ کہہ کر اس نے گوہ آپ کے سامنے پھینک دی۔ آپ نے گوہ کو مخاطب کیا تو اس نے فصح زبان میں جواب دیا۔ اے قیامت کی جانب جانے والوں کی زیب و زینت! میں حاضر ہوں میں فرمانبردار ہوں تمام حاضرین یہ سن رہے تھے آپ نے دریافت فرمایا تو کس کو پوچھتی ہے؟ گوہ نے جواب دیا میں اس ذات کو پوچھتی

ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے جس کی سلطنت زمین میں ہے جس کا راستہ سمندر میں  
ہے جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میں  
کون ہوں؟ گوہ نے جواب دیا کہ آپ پروردگارِ عالم کے رسول اور سب میں آخری نبی  
ہیں یقیناً وہ فائدے میں ہے جس نے آپ کے تقدیق کی اور وہ ضرور خسارے میں ہے  
جس نے آپ کی مکنذیب کی۔ اعرابی یہ گفتگو سن کر مسلمان ہو گیا۔

۲۸۔ حضرت ابو سعید خدروی رض سے روایت ہے کہ ایک چروہا بکریاں چرا رہا تھا وہ  
یہودی تھا کہ بھیڑیے نے ایک بکری دبوچ لی چروا ہے نے اس سے بکری چھڑاں تو بھیڑیا  
ذر اپرے ہٹ گیا اور سائے میں بینچ کر چروا ہے سے کتنے لگا کہ خدا سے ڈریے آپ  
میری روزی اور میرے درمیان حائل ہوئے ہیں۔ چروا ہے نے جنت سے کما کہ بھیڑیا  
بھی انسانوں کی طرح گفتگو کرتا ہے یہ سن بھیڑیے نے جواب دیا۔

الا اخبارُ باعجَبٍ مِنْ ذَالِكَ  
کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب  
بات نہ بتا دوں کہ اللہ کا رسول جو دو  
پہاڑیوں کے درمیان رہتا ہے، وہ  
لوگوں کو جو کچھ گزر پکا ہے اس کی بھی  
خبر دیتا ہے اور جو کچھ تمہارے ہونے  
والا ہے اس کی اطلاع بھی فرماتا ہے۔

رسول اللہ بین الحرمین پعدث  
الناس بابناء قدس بق و ما هو كائن  
بسرا

یہ سن کروہ چروا ہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور پورا واقعہ عرض کر دیا  
آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہو کر یہ سارا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ پھر آپ نے فرمایا  
کہ بھیڑیے نے بچ کیا ہے۔

بھیڑیے کے کلام کرنے کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رض سے بھی مردی ہے  
اس کے بعض طرق میں حضرت ابو ہریرہ رض سے منقول ہے کہ بھیڑیے نے چروا ہے  
سے کما کہ کتنے تجھ کی بات ہے جو آپ بکریوں میں تو کھڑے ہیں لیکن اس نبی کو چھوڑ  
رکھا ہے جن سے اعلیٰ مرتبے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا حالانکہ اس نبی کے لئے  
جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور جنتی لوگ اس کے اصحاب کی مجاہدات

مرگر میوں اور معركہ آرائی کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ ان کے اور آپ کے درمیان صرف یہی گھانی حاصل ہے چاہیے تو یہی کہ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کی فوج میں شامل ہو جائیں پر وہاں کہنے لگا اگر میں چلا جاؤں تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے جواب دیا آپ کے واپس لوٹنے تک بکریوں کو میں چراوں گا۔ چڑاہا اپنی بکریوں بھیڑیے کے سپرد کر کے رحمت دو عالم کی جانب روانہ ہو گیا۔ آگے روایت میں اس کا سارا واقعہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے لشکر اسلام کو مصروف جہاد پایا تھا۔ سرور کون و مکاں ملکتیہ نے اس سے فرمایا کہ جب تو واپس لوٹے گا تو اپنی بکریوں میں سے ایک بھی کم نہیں پائے گا واپس لوٹنے پر جب اس نے واقعی یہی کچھ دیکھا تو ایک بکری ذبح کر کے کھانے کے لئے بھیڑیے کو پیش کر دی۔

۲۹۔ عباس بن مرداس ہبھٹھ سے مروی ہے کہ جب انہوں نے اپنے خادم نبی بت کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اس بت نے نبی کریم ملکتیہ کی شان میں اشعار پڑھتے غیب سے آواز آئی کہ عباس! تم بت کے کلام کرنے پر تعجب کا اندر کرتے ہو لیکن اس بات پر تمہیں کوئی تعجب نہیں کہ اس کا رسول تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور تم باتحہ پر باتحہ دھرے بیٹھے ہو اور خود کو جنم کا ایندھن بنا رہے ہو۔ چنانچہ یہی واقعہ ان کے دائرہ اسلام میں آنے کا سبب بنا۔

۳۰۔ حضرت انس بن مالک ہبھٹھ سے مروی ہے کہ سرور کون و مکاں ملکتیہ ایک انصاری کے باغ میں رونق افروز ہوئے اور آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور ایک انصاری صحابی تھے، باغ میں ایک بکری بھی تھی جس نے سرور کون و مکاں ملکتیہ کو دیکھتے ہی آپ کے لئے سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہبھٹھ عرض گزار ہوئے کہ بکری کی نسبت سجدہ کرنے کے ہم زیادہ مستحق ہیں (الی آخرہ)

۳۱۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ہبھٹھ سے مروی ہے کہ فخر دو عالم ملکتیہ ایک باغ میں داخل ہوئے سامنے ایک اونٹ نظر آیا اس نے دیکھتے ہی آپ کو سجدہ کیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ملکتیہ نے ایک اونٹ سے اس کا حال پوچھا تو اونٹ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اسکا مالک اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔

۳۲۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک اونٹ کے مالکوں سے کہا تھا یہ زیادہ کام لینے اور کم خوار اکب دینے کی شکایت کرتا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اونٹ تمہاری یہ شکایت کرتا ہے کہ تم اس کے بچپن سے اب تک اس سے خوب کام لیتے رہے ہو اور اب اسے ذبح کرنا چاہتے ہو اور مالکوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی انہوں نے یہی ارادہ کیا تھا۔

۳۳۔ نبی کریم ﷺ کی عضباء نبی ناد کے بارے میں مروی ہے کہ وہ آپ سے کلام کیا کرتی تھی اور جب وہ جنگل میں چڑنے کے لئے جاتی تو چارہ اس کی جانب خود دوڑ کر آتا تھا جنگل کے درندے اس سے دور دور رہتے تھے اور ایک دوسرے کو خبردار کرتے تھے اور جب محمد رسول اللہ ﷺ نے وصال فرمایا تو اس اوثنی نے آپ کے فرائیں میں کھانا پینا مطلقاً ترک کر دیا تھا اور اس حالت میں اپنی جان کو جان آفرس کے پسروں کر دیا تھا۔ اس امر کا ذکر امام ابو حامد اخرا یعنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے۔

۳۴۔ حضرت انس، حضرت زید بن ارقم اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رض سے روایت ہے کہ جب ہجرت کے دوران آپ غار میں جلوہ افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا جو اپنی جگہ سے چل کر غار کے منہ پر آکھڑا ہوا اور اس نے آپ کو چھپا لیا اور کبوتروں کے ایک جوڑے کو حکم دیا تو وہ غار کے منہ پر آکر بینجھ گئے دوسری روایت میں ہے کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالاتن دیا تھا اور جب غلاش کرنے والے وہاں پہنچے۔ صورت حال دیکھی تو یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ اگر اس غار کے اندر کوئی گیا ہوتا تو دروازے پر کبوتر نہ ہوتے، حالانکہ نبی کریم ﷺ ان کی باتیں سن رہے تھے۔

۳۵۔ حضرت عبد اللہ بن قرطہ رض سے روایت ہے کہ عید کے روز ذبح کرنے کے لئے پانچ سالات اونٹ بارگاہ رسالت میں پیش کئے گئے، ان میں سے ہر اونٹ ذبح ہونے کے لئے ایک دوسرے کے آگے بڑھ رہا تھا۔

۳۶۔ حضرت ام سلمہ رض سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک روز جنگ میں تشریف فرماتھے کہ ایک ہرمنی نے آپ کو مدد کے لئے پکارا۔ آپ نے دریافت فرمایا تو کیا

چاہتی ہے؟ اس نے عرض کی کہ مجھے اس اعرابی نے شکار کر لیا ہے حالانکہ اس پہاڑ میں میرے دو پنچے ہیں اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں تو میں انہیں دودھ پلا کر واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ نے فرمایا کیا تو ضرور ایسا ہی کرے گی؟ ہرنی نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے ہرنی کو چھوڑ دیا اور وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس لوٹ آئی اور آپ نے اسے حسب سابق باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی بیدار ہو گیا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ کیا آپ کسی حاجت کے تحت یہاں جلوہ افروز ہیں جواب دیا ہاں اس ہرنی کو چھوڑ دے۔ اعرابی نے ہرنی چھوڑ دی وہ میدان میں دوڑتی جاری تھی اور بلند آواز سے کہ رعنی تھی انشهد ان لا اللہ الا اللہ و اشهد انہ ک رسول اللہ یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ آپ ضرور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

۳۷۔ نبی کریم ﷺ نے قبلہ عبد القیس کی ایک بکری کا کان اپنی دوالگیوں سے پکڑا تو کان پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے اور یہ نشان اس بکری کی نسل میں بھی باقی رہے۔

۳۸۔ احمد کے روز قادہ ہی یوں کی آنکھ پر ایک تیر آنکھ اور رخسار پر انک گئی رسول اللہ ﷺ نے آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا تو وہ ساری عمر بڑھاپے تک دوسری آنکھ سے بھی زیادہ کام کرتی رہی۔

۳۹۔ سُنْ نَسَائِيَ میں حضرت عثمان بن ضیف ہیوہ سے روایت ہے کہ ایک نایاب ابارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوا۔ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیانی عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ وضو کر کے دور کھت نماز پڑھو اور فارغ ہونے کے بعد یوں دعا کرو۔

اے اللہ امیں تھوڑے سے سوال کرتا ہوں  
اور تمہرے نبی محمد ﷺ کے وسیلے  
سے تمہری جانب متوجہ ہوتا ہوں جو نبی  
رحمت ہیں۔ یا محمد ﷺ میں آپ کی  
جانب متوجہ ہوتا ہوں کہ مجھے بیانی

اللهم انتي استلئك و اتووجه اليك  
بنبيك محمد نبی الرحمة يا محمد  
انتي اتووجه اليك ان يكشف عنى  
بصرى اللهم شفعه في

مرحتم فرمادی جائے اے اللہ اس

بامے میں ان کی شفاعت قول فرمائے

۴ راوی فرماتے ہیں کہ جب وہ لوٹا تو اسے بینائی مل چکی تھی۔

۵۰۔ غزوہ خندق کے روز حضرت علی بن الحسن بیہقی پنڈلی نوٹ گئی۔ آپ نے اس پر اپنا لحاب دہن لگادیا تو وہ اسی وقت درست ہو گئی حالانکہ وہ گھوڑے سے اتر نہیں سکتے تھے۔

۵۱۔ جنگ بدربالیں ابو جبل نے حضرت معاذ بن عسراہ بیہقی کا بازو کاٹ دیا تھا یہ انہیں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کا ہاتھ اصلی جگہ پر لگا کر اس پر لحاب دہن لگادیا تو حسب سابق ہز گیا۔

۵۲۔ یہ ابن وہب رحمہ اللہ علیہ سے مردی ہے اور ان سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں میں سے حضرت صیب بن یاف بیہقی کے کندھے پر روز بدر زخم آگیا اور وہ ایک جانب لٹک گیا۔ نبی کریم ﷺ نے اسے صحیح حالت میں کر کے اس پر اپنا لحاب دہن لگادیا تو وہ بالکل درست ہو گیا۔

۵۳۔ بارگاہ رسالت میں قبلہ ششم کی کوئی عورت اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر حاضر ہوئی جو کسی بیماری کے باعث بول نہیں سکتا تھا۔ آپ نے پانی منکار کلی کی اور ہاتھ پاؤں دھون کر استعمال شدہ پانی اس عورت کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اپنے اس بچے کو پلاو اور اس کے جسم پر طوچنا بچے ایسا ہی کیا گیا اور وہ بچہ فوراً درست ہو گیا اور بولنے لگا اور ایسے چلنداکہ لوگوں میں صاحب عقل و داشت شمار ہونے لگا۔

۵۴۔ نبی کریم ﷺ سے ایک بڑی نے کھانا اٹھا اور آپ اس وقت کھانا تناول فرم رہے تھے آپ نے اپنے سامنے سے کچھ کھانا اٹھا کر اسے مرحتم فرمادیا۔ بڑی ذرا بے جگ تھی بارگاہ رحمت دو عالم ﷺ میں عرض گزار ہوئی، حضور امتحنہ وہ لقر مرحتم فرمائیے جو آپ کے دہن مبارک کے اندر ہے جب کہ سرور کون و مکان ﷺ کی یہ عادت مبارک تھی کہ سائل جس چیز کا سوال کرتا آپ وہی چیز مرحتم فرمادیتے تھے۔

آپ نے وہ لفڑ اسے عطا فرمادیا اور جب وہ لفڑ اس لڑکی میں اتنی جیا آگئی کہ خواتین مدینہ منورہ کے اندر وہ جیا میں متاز ہو گئی۔

۳۵۔ حضرت حدیثہ ہبھٹ کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی کے حق میں دعا فرماتے تو اس کے اثرات سے اس کی اولاد تک بہرہ یا بہرہ ہوتی رہتی تھی۔

۳۶۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو محمد عتابیؒ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ہبھٹ کی روایت بیان کی حضرت انس ہبھٹ فرماتے تھے کہ میری والدہ محترمہ نے دعا کے لئے بارگاہ رسالت میں الجا کی۔ رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی۔ اے اللہ! اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرمادی اور جو کچھ اسے عطا فرمائے اس میں برکت ڈال دینا۔ حضرت عکرمہ ہبھٹ سے مردی ہے کہ حضرت انس ہبھٹ نے فرمایا۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے بت مال دیا ہے اور میری اولاد نیز اولاد اور اولاد کی کتنی اس وقت سو کے لگ بھگ ہے۔

۳۷۔ نبی کریم ﷺ کی ایسی ہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہبھٹ کو ان کے مال و دولت میں برکت و کثرت کی دعا دی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں زمین سے پھری گی اخھاتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو تا تھا کہ اس کے نیچے بھی مجھے سونال جائے گا جب حضرت عبد الرحمن ہبھٹ کا انتقال ہو ا تو اتنا سو انہوں نے پچھے چھوڑا تھا جسے کیوں اور کہ الوں سے کھود کر نکالا گیا تھا اور کھودنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے ان کی چار بیویاں تھیں اور ہر ایک کے حصے میں اسی اسی ہزار دینار آئے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ایک لاکھ دینار انہیں ملے تھے۔

یہ بھی مردی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہبھٹ نے پچاس ہزار دینار کی دصیت فرمائی تھی ان کی سخاوت اور بخشش کا یہ عالم تھا کہ ایک روز انہوں نے تمیں غلام آزاد کئے ایک مرتبہ انہوں نے مال تجارت سے لداہو اسات سو اونٹوں کا سامان خیرات کر دیا جس میں ہر قسم کا مال تھا حتیٰ کہ انہوں نے اونٹوں کے کجاوے اور اوپر ڈالنے والے کپڑے بھی خیرات کر دیئے تھے۔

۳۸۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو قادہ ہبھٹ کے لئے دعا فرمائی تھی۔ اے اللہ

اس کے بالوں اور جسم میں برکت دے۔ اگرچہ ستر سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا لیکن پندرہ سال کے لئے معلوم ہوتے تھے۔

۵۹۔ نابغہ شاعر کے لئے آپ نے فرمایا تھا۔ اللہ تیرے دانت نہ گرائے ایک روایت میں ہے کہ اس کے دانت سب لوگوں سے خوبصورت تھے اور جب کوئی دانت گرتا تو اس کی جگہ دوسرا دانت نکل آتا تھا۔ وہ ایک سو بیس برس تک زندہ رہے مگر اس کے سارے دانت سلامت رہے بلکہ بعض نے تو اس سے بھی زیادہ عمر بنائی ہے۔

۵۰۔ نبی اکرم ﷺ نے حضرت عروہ بن ابو الجھر ہبھٹھی کو دعا دی تھی ان کا بیان ہے کہ میں بازار میں جاتا ہوں تو اس وقت تک واپس نہیں آتا جب تک چالیس چالیس ہزار درہم فتح حاصل نہ کر لوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو اس سے بھی فتح حاصل ہو جاتا تھا۔

۵۱۔ حضرت علی ہبھٹھی کو آپ نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے گری اور سردی سے کفایت کرے گا تو وہ جاڑوں میں گر میوں کے اور گر میوں میں سردیوں کے کپڑے بھی پہن لیتے جب بھی انہیں گری یا سردی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔

۵۲۔ حضرت خالد بن ولید ہبھٹھی نے صبیب خدا ﷺ کے چند موئے مبارک ایک نوپی میں رکھے تھے۔ اس نوپی کو پہن کر جب بھی وہ میدان کارزار میں جاتے تو یقیناً فتح و نصرت ان کے قدم چومتی تھی۔

۵۳۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے ایک طیاری جبکہ نکال کر دکھایا اور فرمایا کہ اس کو رسول اللہ ﷺ نے پہنا تھا اسے دھو کروہ پانی بیماروں کو پلاتے ہیں تو اس کی برکت سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔

۵۴۔ رحمت دو عالم ﷺ نے قبا کے کنویں میں اپنے وضو کا پچا ہوا اپانی ڈال دیا تھا تو اس کے بعد اس کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہوا۔

۵۵۔ حضرت انس ہبھٹھی کے گھر کنوں تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے اس میں لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی مدینہ منورہ کے تمام کنوؤں سے زیادہ شیرس ہو گیا تھا۔ نبی کریم ﷺ کا گزر ایک چشمے پر ہوا آپ نے لوگوں سے اس کا نام پوچھا

اور پانی کی کیفیت دریافت کی۔ بتایا گیا کہ اس کا نام بیسان ہے اور اس کا پانی کماری ہے سرور کون و مکاں ملٹھیں نے فرمایا کہ اس کا نام نعمان ہے اس کا پانی میحاء ہے۔ آپ کے فرماتے ہی چشے کا پانی فوراً شیرس ہو گیا۔ رسول اللہ ملٹھیں کی خدمت میں آب زمزم پیش کیا گیا آپ نے اس میں اپنا العاب دہن ڈال دیا تو اس پانی سے ملک سے بھی زیادہ خوشبو آئے گلی۔

۵۶۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی ہبھٹھی کو سونے کا ایک ڈھیلا مرحمت فرمایا جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا اور اس پر اپنی زبان مبارک پھیر کر فرمایا کہ جاؤ قرضہ کی ادا ایسیگی کرو۔ چنانچہ انہوں نے چالیس اوقیٰ سونا قرض ادا کر دیا اور اتنا ہی باقی نجع رہا تھا تھا کہ گئے تھے۔

۵۷۔ حضرت قادہ بن نعمان ہبھٹھی کو رسول اللہ ملٹھیں نے کھجور کی ایک شاخ مرحمت فرمائی تھی جب کہ انہوں نے ایک اندر ہیری بارش والی رات میں آپ کے ساتھ نماز عشاء ادا کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس شاخ کو لے جاؤ۔ اس کے باعث دس دس ہاتھ تک تمہارے آگے پیچھے روشنی رہے گی اور جب تم گھر میں داخل ہو گے تو تمہیں ایک سیاہ چیز اندر نظر آئے گی اس کی خوب پیائی کرنا کوئکہ وہ شیطان ہے چنانچہ وہ چل پڑے اور شاخ اسی وقت روشن ہو گئی یہاں تک وہ گھر میں داخل ہو گئے اندر انہوں نے ایک سیاہ چیز دیکھی تو اس کی خوب مرمت کی یہاں تک کہ اسے نکل کر بھاگنا پڑا۔

۵۸۔ نبی کریم ملٹھیں کے برکات سے یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت عکاشہ ہبھٹھی کو ایک لکڑی دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب غزوہ بد رمیں ان کی تکوار نوٹ گئی تھی۔ وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں الیکی تکوار بن گئی جو چکدار، لمبی، مضبوط اور خوب کاٹ کرنے والی تھی۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ جہاد کرتے رہے اور اس کے بعد باقی لڑائیاں بھی وہ اس تکوار کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک مرتدین سے قفال کرتے ہوئے (خلافت صدیق اکبر) میں وہ خود شہید ہو گئے۔ اس تکوار کا نام انہوں نے عون رکھا تھا (عون کا معنی مدد ہے یعنی یہ تکوار کیا بلکہ آقا ملٹھیں کے صدقے غبی مدد ہے) عبد اللہ بن مجلس ہبھٹھی کو بھی آپ نے غزوہ احمد میں ایک کھجور کی

شئی مرحمت فرمائی تھی جبکہ ان کی تکوار نوٹ مگنی تھی یہ شئی ان کے ہاتھ میں تکوار بن مگنی تھی۔

۵۹۔ رحمت دو عالم ملٹھیپر نے حضرت مسیح بن سعد ہبڑی کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور انہیں برکت کی دعا دی۔ ان کا اسی سال کی عمر میں وصال ہوا لیکن ان کے سر کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔

۶۰۔ حضرت عمرو بن جبی ہبڑی کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ان کا چہرہ بیشہ منور رہتا تھا، اسی طرح آپ نے قادہ بن نعمان ہبڑی کے منہ پر ہاتھ پھیرا تو ان کے چہرے میں آئینے جیسی چک آگئی تھی کہ اس میں دوسری چیزوں کا عکس نظر آ جاتا تھا۔

۶۱۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جو بھی دیوانہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا تو آپ ملٹھیپر اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اور جنون جاتا رہتا تھا۔

۶۲۔ کنوئیں سے نکال کر ایک ڈول پانی بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے اس میں اپنا الحاب دہن ڈالا اور واپس کنوئیں میں ڈلوایا۔ چنانچہ اس کے بعد اس کنوئیں سے مشک جیسی خوبیوں آیا کرتی تھی۔

۶۳۔ حضرت ابو ہریرہ ہبڑی نے بارگاہ رسالت میں اپنے نیاں کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، اپنا کپڑا بچاؤ۔ پھر اپنے دست مبارک سے ایک مٹھی اس میں ڈالی۔ پھر فرمایا کہ اسے لپیٹ کر سینے سے لگا لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ ہبڑی عمر بھر کسی بات کو نہ بھولے۔

۶۴۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ ہبڑی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ مشرک تھی۔ ایک دن میں نے اس سے اسلام کے لئے کما۔ اس نے جناب رسول اللہ ملٹھیپر کی شان میں کلہ بے ادبی کما، مجھے ناگوار ہوا اور میں روتا ہوا آنحضرت ملٹھیپر کے حضور میں آیا اور میں نے کما اے رسول اللہ ملٹھیپر دعا فرمائی کہ خدا تعالیٰ میری ماں کو برداشت کرے۔ آپ نے فرمایا اللہم اهدأہم ابی ہو یہ دعا یا اللہ ہدایت کر ابو ہریرہ کی ماں کو۔ میں آنحضرت ملٹھیپر کی دعا سن کر

خوش ہوتا ہوا اگھر آیا دیکھا دروازہ بند ہے اور سیری ماں نے میرے پاؤں کی آواز سن کر کما دیں ٹھہرو اے ابو ہریرہ اور میں نے پانی کی آواز سنی۔ سو سیری ماں نے نما کے اور کپڑے پن کے دروازہ کھولا اور کما اے ابو ہریرہ **أَشْهَدُ أَنَّ لِأَللَّهِ أَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**  
کے حضور میں آیا اور اپنی ماں کے اسلام لانے کی خبر دی، آنحضرت ﷺ حمد الہی بجالائے۔

۶۵۔ یہیقی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خلده بن نذلم جیشو کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے حق میں دعائے برکت کی سویہ حال ہو گیا کہ کسی آدمی کے من میں ورم ہوتا یا کسی بکری کے تھن میں ورم ہوتا اور وہ ورم والا محل ورم کو خنبلہ کے سر میں موضع مس جتاب رسول اللہ ﷺ پر لگادیتا تو فی الفور ورم جاتا رہتا۔

۶۶۔ یہیقی اور طبرانی اور ابن الجیش نے روایت کی ہے کہ جبیب بن فدیک کے باپ کی آنکھوں میں پہلی پڑ گئی اور بالکل انہے ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی آنکھوں پر دم کیا تو اسی وقت ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ راوی کرتا ہے کہ میں نے انہیں اسی برس کی عمر میں سوئی میں ڈوراڑا لئے دیکھا۔

۶۷۔ مسلم نے سلمہ بن اکوع سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کے سامنے باسیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ آپ نے فرمایا سید ہے ہاتھ سے کھا۔ اس نے کما۔ میں سید ہے سے کھانیں سکتا۔ حالانکہ اس کا ہاتھ تھا۔ اس نے یہ بات غلط بیانی سے براہ استکاف کی تھی۔ تب آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تو سید ہے ہاتھ سے نہ کھا سکے۔ اس کا ایسا حال ہو گیا کہ سید ہا ہاتھ اس کا کام سے جاتا رہا۔ منه تنک نہیں پچھا سکتا تھا۔

۶۸۔ خطیب نے جابر بن عبد اللہ سے ایک حدیث طویل میں روایت کیا ہے کہ وہ ایک بار آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک طویل سفر میں تھے۔ راہ میں ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس گاؤں کے آدمی آپ ﷺ کی آمد کی خبر سن کر گاؤں کے باہر منتظر تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس گاؤں میں ایک نوجوان عورت ہے، اس پر ایک جن عاشق ہوا ہے اور اس پر آچھا ہے، نہ کھاتی ہے، نہ چینی

ہے قریب ہے کہ ہلاک ہو جائے۔ جابرؓ کہتے ہیں کہ میں اس عورت کو دیکھا بت خوبصورت تھی جیسے چاند کا نگرا۔ حضور ﷺ نے اسے بلا کر فرمایا کہ اے جن تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ محمد رسول خدا ہوں۔ اس عورت کو چھوڑ دے اور چلا جا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی وہ عورت ہوشیار ہو گئی اور نقاب منہ پر کھینچ لیا اور مردوں سے شرم کرنے لگی اور بالکل صحیح ہو گئی۔

۶۹۔ ترمذی نے ابو ایوب انصاری ہبھٹ سے روایت کیا ہے کہ ان کے ایک خرچی میں خراب ہرا تھا۔ سو ایک بقیہ آکر اس میں سے نکال لے جاتی۔ انہوں نے جتاب رسول اللہ ﷺ کے حضور میں اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اب جب اس کو دیکھو تو یوں کہنا۔ بسم اللہ جبی ر رسول اللہ (یعنی اللہ کا نام) لے کر کتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کے بلانے پر چل سو انہوں نے اسے پکڑ لیا پھر اس کے قسم کھانے پر کہ اب نہ آؤں گی چھوڑ دیا تھلائی آخرالحدیث آپ کے نام کی برکت سے گرفتار ہو گئی۔

۷۰۔ صحیح میں حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ ہمارا چھپا کیا (یعنی سفر ہجرت میں) سراقد بن مالک نے سو میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہمیں ایک شخص نے آیا۔ آپ نے فرمایا لا تَعْزُّنْ إِنَّ اللَّهَ مُعَنَا (غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے سراقد کے لئے بدعا کی۔ اس کا گھوڑا بیٹ تک سخت زمین میں گھس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں صاحبوں نے میرے لئے بدعا کی ہے اب دعا کرو کہ میں نجات پاؤں اور میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے طلب کرنے والوں کو میں پھیر دوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی نجات کے لئے دعا کی۔ سواس نے نجات پائی اور پھر گیا اور جو کوئی اسے ملتا تھا اسے پھیر دیتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ ادھر کوئی نہیں ہے۔

۷۱۔ صحیح میں حضرت جابر ہبھٹ سے روایت ہے کہ ایام غزوہ خندق میں انہوں نے جتاب رسول اللہ ﷺ کی دعوت کے لئے ایک بکری کا پچہ ذبح کیا اور ایک صاع (یعنی تین یوں سے کچھ زائد) جو کا آٹا تیار کیا اور حضور کی خدمت میں آکر پچکے سے اس کی اطلاع کی اور عرض کی کہ آپ ص چند آدمیوں کے تشریف لے چلے۔ آپ نے تمام الی خندق کو جو کہ ایک ہزار تھے پا کر جمع کر لیا اور ساتھ لے چلے اور جابر ہبھٹ سے ہانڈی

مت اتاریو اور آئے کو مت پکائیو جب تک میں نہ آؤں۔ بعد اس کے آپ تشریف لائے اور لعاب دہن مبارک گوندھے ہوئے آئے میں اور ہانڈی میں ڈالا اور دعاۓ برکت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ ایک پکانے والی اور بلوادا اور شور بانکل نکال کے ہانڈی میں سے دو اسے چولھے پر سے اتار دئیں۔ جابر ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ہزار آدمی تھے قسم ہے خدا کی سب ہی نے کھایا اور ہماری ہانڈی ویسی ہی بوش میں رہی اور آٹا اتنا ہی رہا جتنا پلے تھا۔

۷۲۔ اسی غزوہ خندق میں واقع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پر پوائی ٹھنڈی ہوا بھیجی کہ خوب کڑا کے کا جاز اپڑا۔ اور ہوانے ان کو نسایت عاجز اور تنگ کیا۔ غبار بے شمار ان کے منہ پر ڈالا اور آگ ان کی بھجادی۔ اور ہانڈیاں ان کی اسٹ دیں اور نیخیں ان کی اکھاڑ دیں کہ خیے ان کے گرپڑے اور گھوڑے ان کے کھل کر آپس میں لڑنے لگے اور چھوٹ کر لشکر میں دند پھاڑیا۔ اس وقت آپ نے حضرت حذیفہ ہمیشہ کو کفار کی خبر لانے کے لئے مامور فرمایا اور شدت سردی سے محفوظی کے لئے دعا فرمائی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا کی برکت سے مجھے جانے آئے میں مطلق سردی معلوم نہ ہوئی۔ بلکہ ایسا حال تھا کہ گویا میں حمام میں چلا جاتا ہوں۔ (بعضہ من التواریخ حبیب اللہ)

ف: ایسی سخت ہوا کان پر اثر نہ کرنا صریح خارق ہے۔

۷۳۔ صحیح میں حضرت انس ہمیشہ سے روایت ہے کہ عمد رسول اللہ ﷺ میں اپک بار نقطہ ہوا۔ سو ایک بار آپ خطبہ بعد فمارہ تھے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا اور عیال بھوکوں مرتے ہیں۔ آپ میند کے واسطے دعا کیجیے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس وقت آسمان پر کوئی ٹکڑا بھی ابرا کا نہ تھا۔ قسم خدا کی ایسی آپ ہاتھ رکھنے نہیں پائے کہ ابر مانند پھاڑوں کے ہر طرف سے گھر آیا۔ آپ منبر سے اتنے نہیں پائے تھے کہ ریش مبارک سے قطرات میند کے گرنے لگے سو اس در سو در سو مرے جمع تک میند بر سا پھر جمع کے دن اسی اعرابی نے یا اور کسی شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ مکاتات گرپڑے اور مال ڈوب گیا۔ آپ دعا فرمائیے کہ میند قسم جائے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اے اللہ گرد ہمارے

برسے اور ہم پر نہ بر سے اور جدھرا بر کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ وہیں کھل گیا سو مدینہ پر بالکل پانی برنا موقوف ہو گیا اور گرد مدینہ کے برجتارہا۔ اطراف سے جو لوگ آئے کثرت میں کوہیان کرتے تھے۔

۷۴۔ جملین میں جس کو کمالین نے نائی وابن جریر و بزاری کی طرف منسوب کیا ہے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس دعوت اسلام کے لئے آپ نے کسی کو بھیجا اس نے آپ کی اور حق تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ کما کر رسول اللہ کون ہوتے ہیں اللہ کیسا ہوتا ہے سونے کایا چاندی کایا تابے کامعاءس پر بجلی گری اور اس کی کھوپڑی اُزادی۔

۷۵۔ ترمذی نے ابو ہریرہ ہبھٹ سے روایت کی ہے کہ میں جتاب رسول اللہ کی خدمت میں تھوڑے چھوارے لایا کہ ان چھواروں کے لئے دعاۓ برکت کرو جیجھے۔ آپ نے ان چھواروں کو اکھا کر کے ان میں دعاۓ برکت کی اور مجھ سے فرمایا کہ انہیں لے کر اپنے تو شہزادی میں ڈال رکھو جب تمہارا جی چاہے اس میں سے ہاتھ ڈال کر نکال لو مگر اسے جھاڑنا مت۔ ابو ہریرہ ہبھٹ کہتے ہیں کہ ان چھواروں میں اتنی برکت ہوئی کہ میں نے اتنے وقت (کہ سانچھے صاع کا ہوتا ہے) اور ایک صاع وہ طرف ہے جس میں سازھے تین سیر گندم سما کے) اللہ کی راہ میں خرچ کئے اور ہبھٹہ اس میں سے ہم کھاتے اور کھلاتے رہے اور وہ تو شہزادی ہبھٹہ میری کمری کمرب میں لگا رہتا تھا یہاں تک کہ تمیں برس بعد بروز شہادت حضرت عثمان ہبھٹہ کے (قریب تھیں برس کا زمانہ ہوتا ہے) میری کمر سے کٹ کے کہیں گر پا اور جاتا رہا۔

۷۶۔ احمد اور داری نے حضرت جابر ہبھٹ سے روایت کی ہے کہ جتاب رسول اللہ ہبھٹہ ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ تھا بڑا شریر جو کوئی باغ میں جاتا اس پر دوڑتا اور کاشنے کے لئے جھپٹتا۔ آپ نے اسے بلایا اور وہ آیا اور اس نے آپ کے سامنے سجدہ کیا۔ آپ نے اس کی ناک میں مسح ڈال دی اور فرمایا جتنی چیز آسمان میں میں میں سب جانتی ہیں کہ میں رسول خدا ہوں سوائے نافرمان جن و انس کے۔

۷۷۔ ہبھٹہ نے سفینہ ہبھٹ سے روایت کیا ہے کہ میں دریائے سور میں تھا۔ جماز ٹوٹ گیا۔ میں ایک تختہ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے پہلے ایک نیستان میں پہنچا۔ وہاں مجھ سے ایک

شیر ملا اور میری طرف آیا۔ میں نے کہا میں جناب رسول اللہ ﷺ کا آزاد غلام ہوں۔ وہ شیر میری طرف بڑھ آیا اور اپنا کندھا میرے بدن میں مارا پھر میرے ساتھ چلا یہاں تک کہ مجھے راہ پر کھڑا کر دیا اور تھوڑی تھوڑی دیر تھہر کر باریک کچھ آواز کرتا رہا اور میرے ہاتھ سے اپنی دم چھوادی۔ میں سمجھا کہ مجھے رخصت کرتا ہے۔

۷۸۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک تدح دودھ کا گھر میں پایا۔ حکم دیا کہ اصحاب صفہ کو بلا لو۔ یہ بھوکے تھے انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ تھی کو دے دیتے تو میں سیر ہو کر پیتا بعد اس کے میں نے ان سب کو بلایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیں دودھ پلاؤ میں نے پلانا شروع کیا یہاں تک کہ سب نے سیر ہو کر پیا پھر مجھ سے فرمایا۔ تم پیو، میں نے پیا، آپ نے فرمایا اور پیو میں پیتا جاتا تھا یہاں تک کہ میں نے قسم کا کہ کہا کہ اب پیٹ میں جگہ نہیں پھرا باتی آپ نے پیا۔

۷۹۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ نے روایت کیا ہے کہ قریش سے ابو جمل نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اگر محمد ﷺ کو دیکھ پاؤں تو ان کی مبارک گردن کو (نوز بالشہ) اپنے ناپاک قدموں سے پامال کر کے رکھ دوں گا ایک روز نبی اکرم ﷺ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کفار نے ابو جمل کو مطلع کر دیا (برے ارادے سے) آپ کے قریب جا پہنچا، لیکن فوراً بدھوں ہو کر اٹھے پاؤں بھانگنے پر مجبور ہو گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے ناکام و نامراد و اپس لوٹنے کی وجہ پر چھپی توکنے لگا کہ میرے نزدیک اچانک ایک آگ سے بھری ہوئی خندق آگئی اور قریب تھا کہ میں اس میں گرپڑتا نیز میں نے اتنے پروں کے پیڑ پھرا نے کی آواز سنی جس سے زمین بھری ہوئی تھی۔ نبی کریم ﷺ نے بتایا کہ وہ فرشتے تھے۔ اگر وہ مجھ تک پہنچنے سے باز نہ آتا تو فرشتے اس کا ہر ایک جو ز توڑ کر رکھ دیتے۔

۸۰۔ روایت ہے کہ شیعہ بن عثمان مجی نے غزوہ حنین کے روز آپ کو دیکھا تو کنے لگا کہ میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ آپ سے لوں گا۔ اس کے باپ کو حضرت امیر حزہ ؓ نے قتل کیا تھا۔ جب میدان کارزار گرم ہوا اور وہ لوگ اپنی اپنی جگہ مصروف ہو گئے تو وہ پیچے کی جانب سے آپ کے قریب آپنچا اور وار کرنے کی عرض سے تکوار

سوت لی۔ اس کا اپنا بیان ہے کہ اچانک میری جانب آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور بھلی کی طرح میری طرف پکا۔ میں واپس دوڑنے لگا تو نبی کریم ﷺ نے مجھے دکھے دیا اور اپنے پاس بلایا۔ جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا تو آپ نے میرے سینے پر اپنا دست اقدس رکھ دیا اس سے پسلے کوئی شخص مجھے آپ سے بڑھ کر ناپسند نہیں تھا لیکن دست اقدس ہنانے سے پسلے یہ کیفیت ہو گئی کہ ساری مخلوق میں آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محظوظ نہ رہا۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ میرے قریب ہو کر جہاد کرتے رہو۔ چنانچہ میں برابر تکوار کے جو ہر دکھاتا رہا اور آپ کی خاطر جان کی بازی لگاتا رہا۔ اس وقت میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ اگر میرا باب بھی آپ کے مقابلے پر آیا ہو تو اس میں اسے بھی نہ تھی کردیتا۔

اور ان روشن مجزات میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں جمع فرمائے وہ معارف اور علوم بھی ہیں جو صرف آپ کو مرحمت فرمائے گئے یعنی دنیا اور دین کی تمام مصلحتیں، امور شرائع کی معرفت، اپنے دین کے قوانین اپنے بندوں کی سیاست اور امت کے مصالح کی اطلاع بخشی نیز جو کچھ پہلی امتوں میں ہو گزر اور انبیاء و مرسیین اور ظالم بادشاہوں کے واقعات جو زمانہ ماضی میں ہوئے وہ آدم علیہ السلام سے آپ کے زمانے تک سارے ہتھے۔ ان حضرات کی شریعتوں، کتابوں، سیرتوں اور خبروں کو آپ کے ذہن میں محفوظ فرمایا۔ حتیٰ کہ ان کے خاص دنوں، اس زمانے کے لوگوں کی عادتیں، ان کی آراء کا اختلاف، ان کی امداد، ان کی عرس، ان کے حملاء کی دہائی، ہر امت کے کافروں کی جنت بازی، اہل کتاب، (یہود و نصاری) کے ہر فرقی سے ان کا کتابوں کے ساتھ موازنہ کرنا جو باقی انہوں نے چھپا رکھی تھیں ان کو ظاہر کرنا ان علوم اخبار کو ظاہر کرنا جو انہوں نے چھپا رکھے تھے یا بدلتے تھے یا ان تک کہ جو انہوں نے لغات عرب میں تبدیلی کی تھی نیز ہر فرقے کے خاص الفاظ، اقسام فصاحت کا احاطہ ان کے خاص دنوں کا علم، ان کے ضرب الامثال، دہائی کے اقوال، اشعار کے معانی ان کے خاص، جامع کلمات، جن سے ضرب الامثال کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی دہائی کی باتوں کو اس طرح بیان کرنا کہ آسانی سے سمجھ میں آجائیں مشکل باتوں کا

آسان بیان، شرع کے قواعد کو اس طرح بیان کرنا کہ ان میں کوئی تناقض اور خالف نظر نہ آئے۔ جس کے باعث آپ کی شریعت اچھے اخلاق اور قابل تعریف آداب پر مشتمل ہے اور اس کی ہربات لائق تحسین اور اس طرح کھول کر بیان کردی گئی ہے کہ عقل سلیم والا مدد بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ماسوائے رذالت کے باعث انکار کرنے کے۔

الغرض اس ای ہونے کے باوجود دنیا کے تمام علوم و فنون کا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجوزات میں سے ہے۔ مثلاً علم طب، علم تعبیر رؤیا، علم فرائض، علم ہندسہ (ریاضی) اور علم انساب وغیرہ یہ ایسے علوم ہیں کہ ان کے ماہرین نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو اپنے لئے رہنمای اصول تسلیم کیا ہے اور ان علوم و فنون کی بنیاد قرار دیا ہے۔

اس طرح اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہ تھے لیکن آپ کو ہر چیز کا علم مرحمت فرمایا گیا تھا، حتیٰ کہ احادیث میں آیا ہے کہ آپ حروف کی بناؤث اور ان کے صن کتابت کو جانتے تھے۔

حضرت معاذ بیہقی سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لکھنے بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ دوات درست کرلو، قلم کو قط لگاؤ، "بَا" کو کھڑا کرو، سین کو دندانوں کے جدا جدا رکھو، میم کا سر بند نہ کرو، لفظ اللہ کو خوبصورت کر کے لکھو، الرحمن کو لباکرو اور الرحیم کو نشیں طریقے سے لکھو۔

---



---

باب دهم

حضور ملک نصیر الدین کے  
برزخی اور آخری احوال کا بیان



- ۱۔ مکحواۃ میں حضرت ابو درداء جوہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد کو کھا سکے۔ پس خدا کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے" اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے
- ۲۔ ابن البارک نے حضرت سعید بن المیب بہری سے روایت کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر آپ کی امت کے اعمال صبح و شام پیش نہ کئے جاتے ہوں۔ (کذافی المواحب)
- ۳۔ مکحواۃ شریف میں منہ بن وہب سے روایت ہے کہ کعب الاحرار حضرت عائشہؓ کے پاس آئے اور حاضرین نے رسول اکرم ﷺ کا ذکر کیا تو حضرت کعب نے کماک کوئی دن ایسا نہیں آتا۔ جس میں ستر ہزار فرشتے نہ آتے ہوں یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر کو بازو مارتے ہوئے احاطہ کر لیتے ہیں اور آپ پر درود پڑھتے ہیں یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے اسی طرح کے اترتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب (قیامت کے دن) زمین (قبر کی) شق ہو گی تو آپ ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ باہر تشریف لا کیں گے کہ وہ آپ کو لے چلیں گے۔ اس کو داری نے روایت کیا ہے۔
- ۴۔ مکحواۃ میں ابو داؤد و بیہقی سے برداشت ابو ہریرہ جوہری نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر سلام بھیجا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو واپس کر دیتا ہے یہاں آکر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔
- ۵۔ مواعظ میں ابن زجویہ سے برداشت کنیز بن مرہ حضرتی بیان ہوا ہے کہ رسول اکرم

ارشاد فرمایا کہ میں (قیامت کے روز) برات پر ہوں گا اور تمام انبیاء میں سے اس روز میں اس کے ساتھ مخفی ہوں گا۔

۶۔ حضرت جابر چشتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا۔ جب لوگ میتوٹ ہوں گے۔ اور میں ان کا پیشوں ہوں گا جب حق تعالیٰ کی پیشی میں آئیں گے۔ اور میں ان کی طرف سے (شفاعت کے لئے) بات چیت کروں گا جب وہ خاموش ہوں گے۔ اور ان سب میں مجھ سے شفاعت کے لئے درخواست کی جائے گی جب وہ ( موقف میں حساب سے ) محبوس کئے جائیں گے۔ اور میں ان کا بشارت دینے والا ہوں گا جب وہ ناامید ہو جائیں گے۔ اور کرامت ( ہر خیر کی سنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی اور لواء الحمد اس روز میرے ہاتھ میں ہو گا۔ اور میں اپنے رب کے نزدیک تمام نبی آدم سے زیادہ حکم ہوں گا۔ ایک ہزار خادم ( میرے اکرام و خدمت کے لئے ) میرے ارد گرد گھونتے ہوں گے اور ایسے حصیں ہوں گے گویا کہ وہ ہیئتے میں ( غبار وغیرہ سے ) محفوظ ہوں یا موتی ہیں جو بکھرے پڑے ہیں۔ اس کو ترددی اور داری نے روایت کیا ہے۔

۷۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ( بعد اشتاق ارض کی حالت کی نسبت ) فرمایا کہ مجھ کو جنت کے جو زوں میں سے ایک جو زا پسناہی جائے گا۔ پھر میں عرش کی دامنی طرف کھڑا ہوں گا کہ کوئی شخص خلافت میں سے بچوں میرے اس مقام پر کھڑا نہ ہو گا۔ اس کو ترددی نے روایت کیا ہے۔ لعات میں ہے کہ غالباً یہ مقام محمود ہے اور ابن مسعود مجاهد سے مقام محمود کی ایک تفسیر، آپ ﷺ کا عرش پر بھلاکا جانا ہے۔ اور ایک تفسیر ابن عباس سے، آپ ﷺ کا کرسی پر بھلاکا جانا ہے۔

۸۔ حضرت انس چشتی سے ( ایک طویل حدیث میں ) روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ( ایک بار اپنے کلام میں ) فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مطلع کر دو کہ جو شخص مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد ﷺ کا مکر ہو گا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا خواہ کوئی ہو۔

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ احمد کون ہیں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ قسم

ہے اپنی عزت و جلال کی میں نے کوئی تخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو ان سے زیادہ میرے زندگی کرمن ہو۔ میں نے ان کا نام عرش پر اپنے نام کے ساتھ آسمان و زمین اور مہش دفتر پیدا کرنے سے میں لاکھ برس پلے لکھا تھا۔ قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ جنت میری تمام تخلوق پر حرام ہے جب تک کہ محمد ﷺ اور ان کی امت اس میں داخل نہ ہو جائیں۔

۹۔ انجام الحاجۃ میں صحیح حدیث مذکور ہے کہ طبرانی نے کبیر میں عثمان بن حنفی سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص عثمان بن عفان ہبھٹھ کے پاس کسی کام کو جایا کرتا تھا اور وہ اس کی طرف انتقالات نہ فرماتے۔ اس نے عثمان بن حنفی سے کہا۔ انسوں نے فرمایا تو وضو کر کے مسجد میں جاؤ اور وہی اور پر والی دعا سکھلا کر کہا یہ پڑھ۔ چنانچہ اس نے یہی کیا اور حضرت عثمان کے پاس جو پھر گیا تو انسوں نے بڑی تعلیم و حکیم کی اور کام پورا کر دیا۔ الحدیث یہی نے نے اس کو دو طریق سے بیان کیا اور طبرانی نے کبیر اور اوس طرح میں اسی سند سے نقل کیا ہے جس میں روح بن صلاح بھی ہے اور ابن حبان و حاکم نے اس کی توثیق کی ہے۔

۱۰۔ ابوالجوزاء سے روایت ہے کہ مدینہ میں سخت قحط ہوا۔ لوگوں نے حضرت عائشہ ہبھٹھ سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ نبی ﷺ کی قبر کو دیکھ کر اس کے مقابل آسمان کی طرف اس میں ایک منفذ کرو۔ یہاں تک کہ اس کے اور آسمان کے درمیان جگاب نہ رہے چنانچہ ایسا یہ کیا تو بست زور کی بارش ہوئی۔

۱۱۔ مواهب میں سند امام ابوالمنصور صباغ اور ابن الجبار اور ابن عساکر اور ابن الجوزی ”نے محمد بن حرب ہلال سے روایت کیا ہے کہ میں قبر کی زیارت کر کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا کہ یا خیر ار رسل اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک چی کتاب نازل فرمائی۔ جس میں فرمایا ہے۔

وَلَوْاَنَّهُمْ أَذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَ وَلَكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْوَسْوَلُ  
لَوْجَدُوا اللَّهُ تَوَاهْرَ حِيمًا۔ (اتساع، ۲۳:۲)

میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کے خ سور میں

آپ کے دلیل سے شفاعت چاہتا ہوا آیا ہوں۔ اسے حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے کہ ”وہ شخص والیں چلا ہی تھا کہ حضور ﷺ نے اسے بخشش کی بشارت عطا فرمائی۔“ ۱۲۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عرش کے دائیں جانب اعلیٰ مقام پر کھڑے ہوں گے جہاں دوسرا کوئی نہیں ہو گا آپ کو اس مقام پر دکھنے کا رساب اگلے اور پچھلے رشک کریں گے ۔۔۔ اسی کی مانند کعب الاحرار اور حسن بنبری رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہی مقام ہے جہاں سے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔

۱۳۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فخر دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ چاہو تو اپنی آدمی امت بخشو لا اور چاہو تو ان کی شفاعت کرو۔ میں نے شفاعت اختیار کر لی ہے کیونکہ یہ حق اول الذکر سے زیادہ عام ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نیک لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ نہیں میری شفاعت تو گنگاروں اور عصیان شعراوں کے لئے ہوگی۔

۱۴۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دوزخ میں اور جنت میں چلے جائیں گے اور جنتی لوگوں کی سب سے بچپن اور دوزخی لوگوں کی سب سے آخری جماعت باہر رہ جائے گی تو دوزخ میں جانے والے لوگ جنت میں جانے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ یہ سن کر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور خوب زور سے گریہ وزاری کریں گے اور آہیں مار کر روئیں گے ان کی حد درج آہ وزاری سن کر جنتی لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء مسلم اسلام سے ان کی شفاعت کے لئے عرض گذار ہوں گے ہر ہنسی کی جانب سے عذر کیا جائے گا آخر کار وہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو جس مقام پر کھڑے ہو کر آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے وہی مقام محمود ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سورج اتنا قریب ہو گا کہ لوگ اس کی پیش کو برداشت نہ کر سکیں گے اور شدید اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ایکی، ہستی نظر آتی ہے جو آج ہماری شفاعت کرے اس

غرض سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے ابوالبشر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنا�ا، اپنی جانب کی روح آپ میں پھونکی، آپ کو جنت میں رکھا، فرشتوں سے آپ کے سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سمجھائے، آپ ہماری شفاعت فرمائیں تاکہ جس مصیبت میں ہم جلا ہیں اس سے نجات ملے اور ہمیں آرام سے سانس لینا نصیب ہو۔

وہ فرمائیں گے آج میرے رب نے غصب کا انہصار فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی تعییں میں مجھ سے لغزش صادر ہو گئی تھی اللہ ا مجھے خود اپنی فکر ہے میں تو خود حوف محسوس کر رہا ہوں۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ پوچھیں گے کہ آپ ہمیں کن کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔

لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ حضور! آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ قرار دیا ہے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کیسی آفت میں جلا ہیں آپ ہماری شفاعت کیوں نہیں فرماتے۔ وہ فرمائیں گے کہ آج میرے رب نے غصب کا ایسا انہصار فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہو گا مجھے خود اپنی جان کی فکر ہے۔۔۔۔۔ حضرت انس اللہ علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ میری ایک دعوت مقبولہ تھی جو میں اپنی قوم کے لئے کر پکا تھا۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے نبی اللہ! آپ اہل زمین میں سے اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں آپ فرمائیں گے آج میرے رب نے غصب کا ایسا انہصار فرمایا ہے کہ پہلے نہ ایسا ہوا اور نہ ایسا آئندہ ہو گا۔ پھر انہیں با توں کا ذکر کریں گے جو (بطور توری) آپ سے صادر ہوئی تھیں اور فرمائیں تے کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ کیونکہ وہ نکیم اللہ

ہیں۔۔۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورہت مرحت فرمائی۔  
کلام کیا اور سرتوشی کے لئے اپنا قرب بخشنا ہے۔

لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدعا عرض کریں گے تو وہ فرمائیں گے کہ مجھے خود اپنی فکر ہے۔ تم حضرت میسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کی روح اور اس کا فکر ہے۔

لوگ میسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ فرمائیں گے کہ تم نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کا دامن پکڑو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل الگوں اور پچھلوں کی لغزشیں معاف فرانتے والا ہے۔۔۔ تب وہ آپ کی بارگاہ میں آکر مدعا عرض گریں گے آپ فرمائیں گے ہاں اس کام کے لئے تو میں ہی ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پھر مجھے شفاعت کرنے کی اجازت مرحت فرمادی جائے گی اس وقت میں اپنے رب کرم کو دیکھ کر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔۔۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ میں سر رکھ دوں گا۔۔۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کے حضور کھڑا ہو کر ایسی حمد و شاہیان اُروں گا جس پر آج قادر نہیں ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ وہ مجھ پر الہام فرمائے گا۔۔۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنے ایسے خامد ظاہر فرمائے گا جو کسی دونرے پر ظاہر نہیں فرمائے ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ جیؓ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اسر اخہاؤ جو مانگو گے وہ دیا جائے گا اور شفاعت آردو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر اخہاؤ نکال اور عرض کروں گا ہمارب امتی ہا رب امتی فرمایا جائے گا۔ جس کے دل میں ایک گندم یا جو کے دانے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال لو۔ پس میں جا کر ایسے تمام لوگوں کو دوزخ سے نکال لوں گا جن کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا۔

اس کے بعد دوبارہ میں بارگاہ خداوندی کی جانب رجوع کر کے حسب سابق  
مدح و ثناء بیان کرتا شروع کر دوں گا اور امت کی بخشش کے لئے نزارش کروں گا حکم ہو گا  
کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اسے وزن سے نکال لو۔ پس  
میں ایسے تمام لوگوں کو نکال نوں گا اور تیسری بار حمد و ثناء کے بعد امت کی بخشش کا سوال  
پیش کروں گا حکم ہو گا کہ جس گے دل میں ایمان فائزہ برابر بھی شایستہ ہو اسے بھی وزن  
سے نکال لو۔ چنانچہ میں جا کر ان کو بھی لاوں گا۔

چوتھی مرتبہ جب میں سر بسجدو ہو گر حمد و ثناء بیان کروں گا تو فرمایا جائے گا کہ  
اے حبیب اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا چاہتے ہو کو تمہاری ہربات سنی جائے گی شفاعت کرو  
تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور تمہیں حق شفاعت عطا فرمایا جائے گا میں عرض  
کروں گا کہ اے پروردگار! مجھے ان لوگوں کو جنم سے نکال لینے کی اجازت مرحت فرمایا  
جنہوں نے ایک دفعہ بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ حکم ہو گا اے حبیب! مجھے اپنی  
عزت، کبریائی، عظمت اور جبروت کی قسم ہے کہ ایسے ہر شخص کو ہاگ سے نکال لوں گا  
جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ  
ﷺ نے فرمایا، حضرات انبیاء کرام ملیتم اسلام کے لئے منبر رکھے جائیں گے اور وہ  
ان پر جلوہ افراد زہو جائیں گے جب کہ میرا منبر خالی رہ جائے گا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا  
 بلکہ سر پا پا سوال بن کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو گا  
اے حبیب! آپ کیا چاہتے ہیں میں امت کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو تم کوئے  
میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار! انسین حساب سے جلد فارغ کر دیا جائے۔ پس وہ  
بلائے جائیں گے اور ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے  
جنہیں (بغیر حساب) اکے محض اس کی رحمت سے جنت میں بحق و بیان گیا ہو۔ کا کچھ میری  
شفاعت سے جنت میں جائیں گے اور برابر شفاعت کرتا ہی رہوں گا۔ یہاں تک کہ مجھے  
چند ایسے لوگ میں گے جن کو وزن میں؛ ائمہ کے پروانے جاری ہو چکے ہوں گے۔

میں ان کی شفاعت بھی کروں گا تو جنم کا داروغہ (خازن) مجھ سے کے گا کہ اے مجر  
میں پتھر آپ نے عذاب الٰہی کے لئے اپنی امت میں سے کچھ بھی نہیں رہنے دیا۔

---



---

## باب یازدهم

حضرت مسیح اعلیٰ علیہ السلام کے فضائل میں  
چالیس احادیث مبارکہ کا بیان



فصل (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الْأَئْمَاءِ وَعَلَى الْمُصْحَّنِينَ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ

## الحديث في دعوة شخصه وحسن وجهه ونظافته جسمه



# خضور مسلم بن عاصي كذاتي وجاہت شخصی حسن وجمال او جسمانی لطافت ونظافت کا بیان

عَنْ عَلَى بْنِ بَابِي طَالِبٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ إِذَا  
وَصَفَ النَّبِيَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَاطُوِيلُ الْمُعْطَطَ  
وَلَا يَقْصِيرُ الْمُرْتَدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ  
وَلَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ الْجَعْدَ الْقَطَطَ وَلَا يَسْبِطُ كَانَ  
جَعْدًا رِجْلًا وَلَمْ يَكُنْ يَمْطَهِرُ وَلَا يَمْكَثُ  
وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِينٌ أَبْصَرٌ مُشَرِّبٌ  
ادْعَجَ الْعَيْنَ اهْدَبَ الْأَشْعَارَ حَلَّلَ النَّاشِ  
وَالْكَيْنَدَ أَجْرَدَ ذُو مَسْرَبَةَ شَانَ الْكَفَيْنَ  
وَالْقَدَمَيْنَ اذَا مَشَى تَنَقَّلَ كَانَ مَا يَمْشِي فِي

صَبَبَ قَادِرًا التَّفَتَ مَعَابِينَ كُشْبِيَّةٍ  
 خَاتَمَ السَّيَّةَ وَهُوَ خَاتَمُ الشَّيَّةَ أَجْوَهُ النَّاسِ  
 صَدَقَ وَأَصْدَقَ النَّاسِ لِهُجَّةَ فَالْيَهُوْغَرِيَّةَ  
 فَكَسَرَ هُوْ عَشَيْرَةَ مِنْ إِلَاهَ بَدِيهَةَ هَايَةَ وَمِنْ  
 خَالَطَةَ مَعْرِفَةَ أَحْيَهَ يَقُولُ نَاعِمَهُ لِعَارَ قَبْلَهُ وَلِلْبَعْدَ  
 مِثْلَهُ حَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامٌ -

(رواہ الترمذی)

حضرت علیؐ سے روایت ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا  
 وصف بیان کرتے تو کہے کہ آپ زبردست ریادہ ملئے تھے اور نہ  
 کیا ہے فامت۔ آپ لوگوں میں متسلط تھے کہ تھے باکل مڑے ہوتے  
 بالل و ایسے تھے زباکل سیدھے بالل و ایسے بلکہ آپ کے بال قدر  
 ختم تھے۔ آپ نجیف نہ تھے۔ آپ کا چہہ مبارک باکل گول نہ تھا بلکہ  
 معمولی گولائی تھی۔ آپ کا زنگ سفید مائل بسرخی، دھنڈن آنکھیں سیدھے  
 پلکیں دراز، ٹھوپیں کے جوڑ سیدھے تو نوٹے صاحب مشرپ (سینے سے ناف  
 تک بالوں کی کیکر) تھے۔ ہاتھ اور پاؤں پر گوشہ۔ جب پڑتے تو کسے  
 پاؤں اٹھاتے گیا کہ آپ پتی میں اتر رہے ہیں۔ جب تھوڑے ہوتے پہنچی  
 طرح متوجہ ہوتے۔ آپ کے کندھوں کے دمیان مہربوت تھی۔ آپ  
 خاتم النبیین تھے۔ لوگوں میں اندرے سینے کے سنی، گفتگو میں پتے الہ  
 کمرے۔ لمبیت کے زم۔ قبیلہ کے لحاظ سے مکرم۔ جو آپ کو کیا کیک  
 دیکھتا ڈر جاتا اور جو کوئی آپ کے ساتھ رہنے لگتا آپ سے محبت

کرنے لگ جاتا۔ آپ کا ملک بے ساخت پکارا ٹھکہ آپ سے پہلے  
ادبی میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ (ابے ترمذی نے روایت کیا)



وَرَوَى النَّسِيمُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ  
نَّبِيٍّ أَحْسَنَ فِي مُحْلَةٍ حَرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرًا يُضَرِّبُ مِثْلَهُ

امام مسلم حضرت براء سے روایت کرتے ہیں :

میں نے اچک کسی سنبھالنے زلفوں والے حین کو سرخ جوڑے میں طبوس  
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکش اور خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ  
صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک (جب سنکھی کی باقی تو کمل کر کر ہوں کہ  
پھونز گلتے (وہ دعا مطور پر کا لzel کہکھ رہتے جیسا کہ حضرت عائشہ حضرت ان  
ادھر حسن رضی اللہ عنہم سے مردی ہے)



عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرِّلَ سَتَنَارَ  
وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ وَجْهُهُ قِطْعَةً قَمَرٌ وَكَانَ فِي  
ذَالِكَ

(متوفی علیہ)

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اندر خوشی کے وقت یوں چک گھما کر اس سے نذر کی  
شما علیں پھوٹنے لگتی تھیں۔ یوں علم ہوتا تھا کہ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا چہرہ چاند  
کا لکڑا ہے۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری کیفیتِ انساط کو اسی حالت  
کے پہچان جاتے تھے۔ (یہ بخاری مسلم نے روایت کیا)۔



وَ فِي رَوْاْيَةِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ  
إِضْحِيَاءٍ فَجَعَلَتْ أَنْظَارَ الْمَسْكُونِ سُوْلَ إِنَّهُ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حَلَّةٌ حَرَاءً فَإِذَا  
هُوَ أَخْسَنُ عَنْدِي مِنَ الْمُقْرَبِ۔ (المتنذی والداری)

حضرت جابر بن سمرة رضي الله عنك روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں۔  
ایک رات چاند پر جوں پر تھا اور اب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھی  
تشریف فراستھے) میں کبھی چاند کو اد کر کبھی آپ علیہ السلام کو دیکھتا تھا۔ اس وقت  
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری دار چادر اور ڈھنڈھنڈھنڈے ہونے تھے۔ پس حضرت  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چاند سے کہیں زیادہ جسمی ہلکم ہونے۔ (الترذی اور  
داری نے روایت کیا)۔



أَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِةَ قَالَ قَلْتَ  
لِلرَّبِيعِ بْنِ مَعْقُوذَةِ بْنِ عَفْرَاءَ صَفِيِّ لَنَّا  
رَسَعَدَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا أَبْنَائِي  
لَوْرَأَيْتَهُ، رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً۔ (رواہ  
الداری)

دارمی نے ابو عبیدہ سے روایت کیا ہے وہ بھتی ہیں میں نے بچ بنستِ متوڑ سے کہا کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمائیں اپنے نے کہا ہے تم اگر حضرت کا چہرہ اقدس دیکھیتے تو تمہیں یہیں پول مکھا۔ جیسے سوچ طلوع ہرگزی ہے۔ (اسے دارمی نے دایت کیا)۔



وَرَوَكَ التَّرمِذِيُّ عَنْ قَاتِدَةَ عَنْ أَنْسٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا لَبَثَ يَنِيَّ إِلَّا  
حَسَنَ الصُّوتُ حَسَنَ الْوَجْهِ وَكَانَ شَبَّيْكُمْ أَخْسَثُهُمْ  
وَجْهًا وَأَحْسَنُهُمْ صَوْتًا۔ (رواہ الترمذی)

ترمذی نے قاتدہ سے برداشت انس رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندی کو خوش آواز اور حسین چہرے کے ساتھ مبسوٹ فرمایا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آواز اور چہرے کے خوبیں ان سب سے زیادہ حسین تھے۔ (اسے ترمذی نے دایت کیا)۔



عَنْ أَنْسِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْهَمُ الْقَبْرِ كَاتِبَ عَرْقَلَةَ الْوَلْوَنَ  
إِذَا مَشَ تَكَفَّأَ وَلَا مِسْتَدِيلَ دِيَبَاجَةَ وَلَا حَرِيقَ  
الْأَبْرَى مِنْ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَلَا شَمِيمَتْ مِسْكَةَ وَلَا عَنْيَرَةَ أَطَيَبَ مِنْ كَلْمَةَ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

عندر صلی اللہ علیہ وسلم کا زگ مبارک ایا چاک طبعا جس میں چاندی  
کی طرح سقیدی اور سونے کی طرح سنہری جملک تھی پسینہ مبارکہ تیرنگ کی طرح  
(رشاف) تھا جب چلتے تھے ترقیت کے ساتھ رہبر سے اعتماد اور  
وقار کے ساتھ قدم رکھتے اور اٹھلتے تھے نبی نے رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم کی بخشیلوں سے زیادہ زم کوئی دیبا اور لشیم ہبھیں چھووا اور زندہ  
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم اقدس کی خوشخبر سے مدد کوئی مشک و غیر  
سو بھجا۔ (اسے بخاری و مسلم نے روایت کی)۔



فصل (۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَمُوْلَى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى الْمُحْسِنِينَ وَبَارِزِ الْمُسْكِنِينَ

### حدیث فی حُسْنِ تَكْلِيمِهِ



## حضرت صَلَّی اللّٰہُ عَلٰیہِ وَسَلَّمَ کی گفتگو کے حسین انداز کا بیان

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ  
صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرِكُنْ يَسِيرُ الْحَدِيْثَ  
كَمْرَدَكُرَادَاتَ يَجِدِّثُ حَدِيْثَ الْوَعْدِ الْعَادِ  
لَا خَصَاةً - . رَمْتَنِقَ عَلٰيْهِ ،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہیں طرح تم لوگ سلسل اور موڑتے  
گفتگو کرتے ہو۔ حضور اس طرح گفتگو نہ فرماتے تھے بلکہ بات کرتے  
وقت اگر کوئی شخص حضور کے الفاظ کو شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا۔  
(اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا)۔

رَوِيَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَاتَ فِي كَلَامِهِ  
صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ تَرْتِيلٌ أَوْ تَرْسِيلٌ  
فَأَخْرَجَ الدَّارِعِيُّ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ



قالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ النَّبِيِّنَ  
إِذَا تَكَلَّمَ رَأِيَ كَالنَّعْدِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَيَّيْهِ -  
(رواہ الدارمی)

حضرت جابر بن عبد الله عنہ سے مردی ہے کہ

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بڑی ترتیب ہوتی تھی لیکن نصیر  
شہر بر کے کلام فرماتے تھے۔

اور درمی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم  
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے دندان مبارک میں رخیں تھیں جب گھنٹو  
فرماتے تو ان کے درمیان سے نور نکلا معلوم ہوتا تھا۔ (اسے درمی روایت کیا)۔



فصل (۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَمُوَلَّتِهِ وَاغْبُرْهُ وَبَارِقْهُ وَسَلِّمْ

حدیث فی حسن تبسمه

## حضرت اسحاق کی دنوازہ سکراہت کا بیان

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ  
الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجِمًا قَطُّ ضَاحِكًا  
حَتَّى أَرَكَ مِنْهُ لَهْوًا تَهْوِيَةً وَإِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ

(رواہ البخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو  
کہیں بھی اس طرح کھل کھلا کر سنتے نہیں دیکھا کہ آپ کا تاب مبارک نظرتے  
لئے بکھر آپ صرف سکرا یا کرتے تھے۔ (اسے بخاری نے روایت کیا)۔



وَفِي رَوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بَعْضِيَ اللَّهِ  
عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسَّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ الترمذی)۔

ادر عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو سکر لئے والانہیں دیکھا۔ (اسے  
ترمذی نے روایت کیا)۔



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الَّذِينَ هُمْ بِكَارِفٌ بِسْمِكَرِ

## حدیث فی حسن عشرتہ

### حضرت مسیح امیر الامم کی دش معاشر کا بیان

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَافَحَ الرَّجُلَ  
لَمْ يَبْرُزْ يَدَهُ وَلَا يَصْرُفُ وَجْهَهُ عَنْ  
وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي لَصَرَفَ وَجْهَهُ  
عَنْ وَجْهِهِ وَلَمْ يُرِيْ مُقْدَّسَ مَآْزِكُبَتِيهِ بَيْنَ  
يَدَيْ حَلِيسِ لَهُ - (رواہ الترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
جب کسی آدمی سے مصافحت کرتے تو جب تک وہ شخص خود اپنا ہاتھ نہ بخٹک  
بیتا حضرت اپنے دست اقدس اس کے ہاتھ سے علیحدہ نہ کرتے، اور  
جبت کہ وہ اپنا مسٹنہ نہ پھیر لیتا حضرت اپناؤ رخ اندر اس سے نہ پھریتے اور  
کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ حضرت اپنے زالِ مبارک اپنے ہم شین سے  
آگے بڑھا کر بیٹھیے ہوں۔ (اسے ترمذی نے روایت کیا)۔



## فصل ۵

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی سَلَیْلٍ مِّنْ اَنْوَارِ نَبِیٍّ وَعَلٰی الْمُصَحَّحِينَ وَمَا زَانَ فِیْهِ مُبَهِّلٌ

### حدیث فی شجاعتہ

## حضرت اشتریؑ کی شجاعت و بہادری کا بیان

عَنْ أَنْفُسِنَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَاتِبٌ تَرَسَّوْتَ اللَّهُ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَسَّ النَّاسَ وَلَجُوعَ النَّاسِ وَأَبْجَعَ النَّاسِ  
وَلَقَدْ فَرَغَ عَاهِلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لِيْلَةً فَانْظَرَ  
النَّاسَ قَبْلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُوا إِنَّمَا اللَّهُ  
عَلَيْهِ قَدْ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقِيلُ  
لَوْ تَرَأَوْهُ تَرَأَعُوا وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَا فَرَسٌ  
طَلَحَّةٌ عَزِيزٌ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ وَفِيْ عُنْقِهِ سَيْفٌ  
فَقَالَ لَقَدْ جَدَتْهُ بَخْرًا - (متفق عليه)

حضرت ائمہ رضاؑ فرمادیں، رسول اشتریؑ اسلام بے نادہ جمن سے زیادہ سخنی اور سبے  
زیادہ بہادر تھے۔ ایک شب ایک خوناک آواز کی وجہ سے اہل مدینہ  
ڈگئے اور سب لوگ پتہ چلانے کے لیے آواز کی سمت چل دیے سامنے  
سے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے ملے جو سب سے پہلے آواز کی سمت  
(تھا) چل گئے تھے آپ فرمائے لمحے خوفزدہ نہ ہوں، فندو نہیں، اس وقت آپ الٹم  
کے رہنہ پشت گھر میسے پر سوار تھے اور گردیں مبارک میں تلوار لٹک ہی تھی آپ نے فرمایا  
اک گھر میسے کوئی نہیں نے سندھ کی طرح رفتیز بنا پایا۔



(اے بخاری و مسلم نے ردابت کیا)

فصل (۹)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَئِمَّةِ أَهْلِ السَّنَّةِ وَصَلِّ عَلٰى الْمُحَاجِبِ فِي هَذَا زَمَانٍ وَبِسْمِكَنْ

حدیث فی بسط جودہ و کرمہ

حضرت مولی علیہ السلام کی وسعت جود و کرم کا بیان

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءًا فَقَطْ فَقَالَ لَا -  
(مشقی علیہ)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں !

کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں حضور سے سوال کیا  
گیا ہو اور آپ نے جواب میں انکار فرمایا ہو۔ (لے سخواری و ملنے دیت کیا)

رَوِيَ الْتَّمَذِي أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ تَسْعُوتَ  
الْفَ دِرْهَمَ فَوُضِعَتْ عَلَى حَصِيرٍ فَنَمَّا رَدَّ  
سَاعِلًا حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ  
فَعَالَ لَيْسَ عِنْدِهِ شَيْئًا فَلَكَ رَبِيعٌ عَلَى  
فَإِذَا جَاءَنَا شَيْئًا هُوَ فَقَنَيْنَا -

اہم ترندی نے رد امت فرمائی ہے کہ  
دبار نبوی بیس نتے ہزار درہم لاتے گئے اور ایک چنان پر ڈھیر  
کر سیلے گئے۔ آپ نے کسی سائل کو مخدوم نہ لوٹایا۔ یہاں تک کہ تمام  
درہم تقسیم ہو گئے۔

پھر ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب تو کچھ نہیں بجا،  
تم اس طرح کرو، میرے نام پر اُدھار خریدلو۔

جب ہمارے پاس کچھ آئے گا تو ادا نجی کر دیں گے۔



فصل (۷)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی سَلَیْدٍ مَوْلٰاً نَبِیْلٰاً مُحَمَّدٰ وَعَلٰی الْمَوْلٰا نَصِیْحٰتِهِ فَبَارِقْسَلَمٰنَ

حدیث فی طیب ریحہ ولین مسہ



## حضرت اسحاق کے جماعتی گزار اور مسیحیوں کا بیان

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ضَلَّيْتُ  
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْأَوَّلِ  
شَمَّ خَرَجَ إِلَيْ أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ  
وَلَدَاتٌ فَجَعَلَ يَمْسُعُ خَدَّيْهِ أَحَدَهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا  
قَالَ وَمَا إِنَّا نَفْسِيْسَخْ خَدَّكَ قَالَ فَوْجَدْتُ لَيْدَهُ  
بَرَدًا وَرِيحًا كَانَتْ مَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةٍ عَطَابِهِ  
(رواہ مسلم)

جابر بن سمرة رضي الله عنه فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضور کے ساتھ  
نماز فخر طی ہی۔ نماز پڑھ کر حضور گھر تشریف لے گئے میں بھی حضور کے  
ساتھ تھا راستے میں کچھ لڑکے سامنے سے آ کر ہیں، حضور نے ہماریک  
کے رخار پر لاد تھوپھیں لیکن میرے دلوں رخاروں پر دست شفت پھر  
ذرتے ہیں میں نے حضور کے دست اقدس کی خشکی اوڑھو شبراں طرح  
محسوس کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عطر فردش کے ٹبی سے  
کھلاا ہے۔ (اسے ملکہ نے دایت کیا)

فصل (٨)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى الْأَئِمَّةِ الصَّادِقِينَ وَمَحَاجِزِ الْمُسْكِنِينَ

حَدِيثُ فِي كُونِهِ خَيْرَ الْخَلْقِ لِفُسَّاً وَبَيْتًا

حَضُورِ مَلِي عَلِيِّ إِيمَامِ کے ذاتی شرف و کمال اور  
حُبِّ و نُسبِ کی افضیلیت کا بیان

عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ الْمُتَبَرِّقِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَهُ سَمِعَ شَيْئًا فَقَامَ النَّبِيُّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُتَبَرِّقِ قَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟  
 فَقَالُوا : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِ أَنَّ اللَّهَ  
 خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فَلَمَّا شَوَّهُ جَاهِلُونَ  
 فَرَقَّتِيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فَرِيقَةً ثُمَّ جَاهِلُونَ  
 فَيَأْتِيَنِي فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِي قِبْلَةٍ ثُمَّ جَاهِلُونَ  
 بِيَوْنَاتِنِي فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا فَإِنَّ خَيْرَهُمْ فُسَّاً  
 وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا -

(ردِّهُ الرَّزْدِي)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں ہماڑیوئے آپ اس وقت کا فرول سے (کچھ ناشائستہ کلام سنکر غصتہ کی حالت میں تھے (واقعہ پر مطلع ہو کر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں کون ہوں؟

صحابہ نے عرض کیا آپ رسول خدا ہیں۔ فرمایا میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں۔ خدا نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خلق (یعنی انسان) میں پیدا کیا، پھر مخلوق کو دھمتوں میں تقسیم کر دیا (یعنی عرب بجم) تو مجھے بہترین طبقے میں داخل کیا۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ میں داخل فرمایا (یعنی قریش) پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے میں داخل کیا اس لیے میں ذاتی شرف اور حسب ونسب کے لحاظ سے تمام مخلوق سے افضل ہوں۔ (اسے ترمذی نے روایت کیا)۔



قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَثْتَ  
مِنْ خَيْرِ قَرْبَتِ بَنِي آدَمَ قَرْنَافِعَ نَا حَقَّ لِعَثْتَ  
مِنَ الْقَرْبَتِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ رَمْكَوَةً شَرِيفَ ص(۵)

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کے ساتھ یہ مردی ہے کہ آپ نے فرمایا: یکے بعد دیگرے جو صدیاں آئیں ان میں سے بہترین صدی میں مجھے سجوت کیا گیا، یہاں تک کہ میں اس صدی میں مسیوں ہوا جس میں کمیں ہوں۔



## فصل (۹)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى الْمُرْسَلِينَ وَاجْعَلْهُمْ مَثَلَّةً لِأَوْسَطِ الْأَرْضِ

حَدِيثُ فِي كُونِهِ أَرْحَمَ لِعِيَالَهُ وَخَدَامَهُ

حضرُ مَنْ عَلٰى إِلٰهٍ كَيْ خَلَقَ شَرِفَتَ اُهْلَ وَعِيَالَهِ

نظرِ کرم کا بیان

عَنْ اَنْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَدَّمْتُ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ سِنِّينَ فَمَا قَالَ لِي  
اَقْ وَلَا يَرَأْ صَنْعَتَ وَلَا اَلَا صَنْعَتَ (متفقٌ عَلٰيْهِ)

حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی۔ آپ نے مجھے کبھی اُفت بہ کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کام تو نے کیا ہے؟ یا یہ کیکیا نہ کیا؟ (اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا)۔

﴿ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مَا أَيْمَنْتُ أَحَدًا كَاتِبًا  
أَرْجُمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ﴾

حضرت انس کی ایک اور روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی شخص کو بھی اپنے عیال کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے زیادہ رحیم نہیں دیکھا۔

فصل (۱۰)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّصَلِّ عَلٰى الْأَئِمَّةِ وَصَلِّ عَلٰى الْمُحَاجِّيْنَ وَبَارِكْ فِي هَذِهِ الْمُهَاجِّيْنَ

حدیث فی کونہ رَحْمَةً لِأَعْدَائِهِ

حضرت مسیح اصلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی اور دشمنوں تک وسیع رحمت  
کا بیان

عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ قال قیل  
یا سو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادْعُ عَلٰی الْمُشَرِّكِینَ  
قال ای لَوْلَا بَعْثَتْ لَعَانًا وَاتَّمَّا بَعْثَتْ رَحْمَةً  
(رواہ مسلم)  
ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں۔  
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مشرکین کے  
واسطے بدعا کیجئے۔ حضرت نے فرمایا !  
• میں لعنت کرنے والے کی حیثیت سے مبوقت نہیں ہوں گے بلکہ مجھے  
توصیف رحمت بنانکر بھیجا گی ہے۔ (اسے مسلم نے روایت کیا)۔



## فصل ۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَلَيْلَةِ وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَهْلِ وَصَحْبِهِ وَارْسَلْهُمْ إِلَيْنَا

حَدِيثٍ فِي كُوْنِهِ مُتَصَرِّفًا فِي الْوُجُودِ بِاَذْنِ خَاهٍ

حضرت اپنے ساتھ کے اختیارات اور باذن اللہ

کائنات میں تصرفات کا بیان

عن رَبِيعَةِ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ كَنْتُ أَبْيَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا تَبَيَّنَ لِيَ وَضُوْتُهُ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

لِي سَلَّمَ فَقُلْتُ أَسْلَدْكَ مَرَا فَقَتَكَ فِي الْحَنَّةِ قَالَ

أَوْ عَيْنَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَلِكَ قَالَ فَاعْتَنِ عَلَى

نَفْسِكَ بِكَثِيرَةِ السَّجْوُودِ - (بعاه المسلم)

حضرت رَبِيعَةِ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَمَّا تَبَيَّنَ:

میں حضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پاس ہی رات گزار کرتا تھا، ایک ات-

(معمول) کے مطابق ایس نے وضو، کاپانی اور عزورت کی دوسروی تپزیر

ہیتاکیں۔ حسنور انور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے تو شہر کمر فرمایا مانگو (جو کچھ

مانگنا ہے) میں نے عرض کی! یا رسول اللہ! (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت و معیت طلب کرتا ہوں

حسنور نے فرمایا! بس یا اور کچھ بھی (مانگنا ہے)، میں نے عرض کیا بس یا کچھ!

آپ نے فرمایا: سجدے نکرست سے کیا کر دو۔ (کے سلسلے نے دو ایت کی)

فصل (۱۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُوسٰى وَمُحَمَّدٍ وَعَلٰى الْأَئِمَّةِ وَعَلٰى الْمُصْحِّنِ فَمَارَ فَسَلِّمْ

## حَدِيثُ فِي كَوْنِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ

### خُصُوصَتِ الْمُكَفَّرُونَ كَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ بِهُوَ نَكْبَانٌ

عن أبي هريرة رضي الله عنه  
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ  
 مَثَلِي فَمَثَلُ الْأَنْبِيَا، مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِي نَجَدٌ  
 بَنْيَ بَنِيَّاً فَأَحْسَنَهُ، وَأَجْمَلَهُ الْأَمْوَاضَعَ لِسَنَةَ مِنْ  
 زَاوِيَّةٍ جَعَلَ النَّاسُ يُطْوِقُونَ بِهِ وَيَتَعَجَّلُونَ  
 لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا فُضُّلَتْ هَذِهِ الْلِّبَنَةُ قَالَ  
 فَلَمَّا لَّمْ يَرَوْهُ قَالُوا إِنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ - (رواوه البخاري)

ابن هيره رضي الله عنه فرمي جس :-

رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال گز شستہ انبار  
 کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بہت خوبصورت مکان بنایا اور  
 اسکو خوب آراستہ کیا یکیناں ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی تو گل کمر  
 اس مکان کو ہمدردی کیجئے لگے اور اب لو ! یہاں اینٹ بکھر نہیں رکھی گئی ۔

حضرور نے فرمایا! پس میں وہی اینٹ ہوں اور خاتم النبیین ہوں  
 (اسے بخاری نے روایت کیا) \*

وَفِي رَوَايَةِ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
 قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّا مُوْضِعُ الْبَيْتَةِ حِجَّةً  
 فَخَتَّمَتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

ادھر حضرت جابر کی روایت میں ہے  
 حضرور نے فرمایا کہ میں اس اینٹ کی جگہ ہوں میری آمد سے  
 انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو جیا۔

## فصل ۱۲

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ**

**اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَلَيْلٍ وَمُوْلَى ابْرَاهِيمَ وَعَلٰى الْمَحْبُوبِ عَلٰى اللّٰهِ تَصْحِّحْنَاهُ فَمَا زَالَ فَسَلَّلْنَاهُ**

حَدِيثٌ فِي كَوْنِهِ نَبِيًّا قَبْلَ تَحْكِيمِ آدَمَ

حضرُوا مَعَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ كَيْ تَخْلِقُ اُخْرَى حَسَنَاتِ آدَمَ مِنِ الْإِنْسَانِ

پَهْلَنِبِيٰ ہونے کا بیان

عن أبٍ هريرة رضي الله عنه

قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم  
متى وحيت لك النبوة قال عليه السلام، وآدم،  
بابت السُّرُوح والجَسَد - (رواوه الترمذى)

حضرت ابو هريره رضي الله عنده فرميته بیں۔

صحابہ نے عرض کی: یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آپ شرف  
نبوت سے کس وقت بھرو در بھرئے تھے؟ یعنی آپ کے لیے نبوت  
کب دا جب یا ثابت ہوئی۔

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

(بیں اس وقت یعنی نبی تھا) جب کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق انجی  
روح اور جسم کے مرحلہ میں تھی (یعنی روح اور جسم کا باہمی تعلق انجی  
نہ ہوا تھا) । اسے ترمذی نے وایت کی)



فصل (۱۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى الَّذِينَ هُمْ بِكَارُونَ وَسَلِّمْ

حدیث کونہ قاسمًا بین خلق اللہ تعالیٰ

حضرت اشیاعہ کی شان عطا اور مخلوق کے لئے

قاسم ہونے کا بیان

عن جابر بن عبد اللہ النصاری رضی اللہ عنہ  
قالَ قاتَ الْبَنِي مُصْلِي اللّٰهِ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّوْا بَأْسِيْرٍ  
وَلَا تَكْنُوا بِكُتُبِيْتِيْ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسَمَ سَيْنِكُمْ -  
(رواہ البخاری)

حضرت جابر بن عبد اللہ النصاری رضی اللہ عنہ ذراستے ہیں۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :  
میرے نام پر نام رکھ لیا کر دیکھی میری گنتیت نہ رکھا کرو کیونکہ تاہم مرٹ  
ہیں ہی ہوں تمہارے درمیان (فیضانِ الہی اور انعاماتِ خداوندی) تقسیم  
کرتا ہوں۔ (اسے بخاری نے روایت کیا)۔

وَ فِي رُوَايَةِ اسْتِمَا اَنَا قَاسِمٌ وَ اللّٰهُ يُعْطِي

اد را یک روایت میں ہے

حضرت نے فرمایا :

بے شک میں ہی تقیم کرنے والا ہوں۔ اور اللہ عطا کرتا ہے۔



وَ فِي دُوَايَةِ الْمُسْلِمِ  
 قَاتَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسَوُ بَيْنَكُمْ  
 اور مسلم مشریع کی ایک روایت یہ ہے :  
 مجھے قاسم بن اکرم چھینگا گیا ہے۔ میں تمہارے درمیان تقسیم کرنا ہوں۔



## فصل (۱۵)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَلَيْلَةِ مُوْلَانَا مُحَمَّدِ رَعْلَى الْكَوْنَى وَصَلِّ عَلٰى الْمَوْلَى وَصَلِّ عَلٰى اَمْرِكَوْنَى وَصَلِّ عَلٰى اَمْرِ مُحَمَّدِ رَعْلَى اَمْرِكَوْنَى

حدیث فی کونہ شہیداً علی امته

○  
حضرت اپنے ائمّت کے اپنی امت پر گواہ ہونے  
کا بیان

عن عقبة بْن عامر رضي الله عنه  
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا  
 فَصَلَّى عَلٰى أَهْلِ أَحَدٍ صَلَاتَةً عَلٰى الْمَيِّتِ شُفَّرَ  
 الْمَرْفَأَ إِلَى الْمَبْرَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرِطْتُكُمْ  
 وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ فِي الْأَنْوَافِ وَاللَّهُ لَأَنْظُرَنِي  
 حَوْضَيِ الْأَنْوَافِ وَإِنِّي أَعْطِيَتُ مَغَاثِيْعَ خَزَائِنِ  
 الْأَرْضِ إِذْ مَقَاتِلْتُ الْأَرْضَ وَإِنِّي وَاللَّهُ مَا  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ إِنَّ تَشَرَّكُوا بِعَيْنِي وَلَكُمْ  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْهَسُوا فِيهَا - رَمْتَقْ عَلَيْهِ -

عقبہ بن عامر رضی الله عنہ فرماتے ہیں :  
 امک روز حضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باہر تشریف لائے اور شہیداً جگہ ایک

کی نماز پڑھی جس طرح میت کی نماز پڑھتے ہیں نماز سے فائغ ہو کر منصب پر عکبر  
فرمایا! میں تمہارا بیٹھوا ہوں، اور میں تمہارے اور پر گھوا ہوں (لیعنی تمہارے  
اتوال سے باخبر ہوں) خدا کی قسم ہیں اس وقت حوض کو تزویج کر رہا ہوں اور  
محبھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔

خدا کی قسم! محبھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا  
ہو جاؤ گے۔ البتہ یہ خوف صردار ہے کہ متاع دُنیاوی کے لایٹ  
میں تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے۔ (اسے بخاری و مسلم نے  
روایت کیا)۔



## فصل (۱۶)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَئِمَّةِ أُولٰئِكَ وَصَلِّ عَلٰى الْمُحَاجِّهِ وَبَارِئِ الْمُجَاهِدِ وَسَلِّمْ عَلٰى مُوسَى

حَدِيثٌ فِي كُونِهِ عَالَمًا بِجَمِيعِ احْوَالِ الْخَلْقِ  
بِاعْلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى

حضرت انبیاء مکے علیہ وسلم کی وسعت اور مخلوق کے تمام  
احوال سے آگاہ ہوئے کا بیان

عن عمر بن الخطب النباري رضي الله عنه  
قال صلى الله عليه وسلم يوم الفجر  
وصعد المنبر خطيبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل  
فصلوة شرفة صعد المبتل في خطيبنا حتى حضرت العصر  
ثم نزل وهو شتم صعد المتبر حتى غربت الشمس  
فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيمة قال  
فأعلمنا أحفظنا (روايه المسلم)

حضرت عمر بن الخطب النباري رضي الله عنه فرميته هيں -  
حضرت نبی مسیح پیر چھائی اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں  
خطاب فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو چکا پھر آپ نیچے تشریف

لے آئے نماز پڑھائی بعد ازاں مبزر پر نزول جلال فرمایا اور جسیں خطاب کیا  
تھی کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر منبر سے اُترے اور نماز پڑھائی پھر مبزر پر تشریف فرا  
ہوئے۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا پس آپ نے ہمیں ہر اس بات کی  
خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والی تھی۔ عرب بن الخطب فرماتے ہیں ہم  
یہ زیادہ جانستے والا ہے جو زیادہ قوی الحافظ ہے۔ (اے مسلم نے روایت کیا)



وَفِي رِوَايَةِ حَذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا تَرَكَ  
شَيْءًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قَيْمَ الْسَّاعَةِ  
الْأَحَدَثُ بِهِ حَفْظَهُ مِنْ حَفْظِهِ وَلِسِيهِ مِنْ  
نَسِيهِ۔ (متتفق عليه)

حضرت حذیفہ کی روایت میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر خطاب کیا  
آپ نے اپنے کھڑے ہونے سے لے کر قیامت تک کی کوئی ایسی چیز  
نہ چھوڑی جس کو آپ نے بیان نہ فرمایا ہو۔ جس نے جو کچھ یاد کھا سے یاد  
روکیا اور جس نے مُھلادیا سے بھول گیا۔ (اے بخاری وسلم نے روایت کیا)۔



فصل (۱۷)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى الْمَوْلَى مُحَمَّدٍ وَرَبِّ الْمَسْكِنِ

حدیث فی کونہ مقاومت خزانہ الارض بیدہ

○  
حضرت مسیح امیر الامم کے دست قدر میں تمام خزانوں  
کی چابیاں دیتے جائز کا بیان

عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ  
قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
لَعِشْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَلَصِنْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا  
أَنَا نَائِئٌ رَأَيْتُ أَرْتِيَتُ بِمَقَاتِلِ خَزَانَةِ الْأَرْضِ  
وَقُضِيَتُ فِي يَدِيْ - (متوفن عليه) -

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں۔

یہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تھا (آپ فرماتے تھے)  
کہ میں جو امحکم کے ساتھ معمور شہ ہوا ہوں اور رعب کے ساتھ مدد کیا  
رکھیا ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں نہیں  
گئی ہیں اور وہ میرے ہاتھ میں تھماڈی گئی ہیں - (اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا)۔



فصل (۱۸)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُوَلَّا الْأَنْجَى وَعَلَى اللَّهِ الْفِرْجُتُهُ فَبِإِذْنِ رَبِّكَ مَنْ

حدیث فی اعجاز سمعہ و لبصہ  
حضرت اشہد سلسلہ کے دیکھنے اور سننے کی اعجازی

### شان کا بیان

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ

اللَّهُ سَمِعَ الشَّيْءَ صَدَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَمَّ الْكَوْنَعَ  
وَالسُّجُودَ فِي الْزَّمَانِ لَفَتَّشَى بَيْدَهُ إِذَا لَأَرَى كُفُورَ مِنْ

بَعْدَ ظَهَرَتْ رَأْدَامًا لَكَعْمَ وَإِذَا مَا سَجَدَتْ شُفَوْ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (رواہ ابن حماری)  
میں نے نا آپ فرماتے تھے رکوع اور سجود مکمل کیا کرو، پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب تم رکوع اور سجود کر کرے ہو میں بالیقین پس پشت تھیں دیکھتا ہوں۔ (اسے بخاری وسلم نے روایت کیا)۔

وَفِي رَوَايَةِ أَبِي ذِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَنْتَ مَا لَا تَرَوْنَ فَأَنْتَ مَا لَا  
تَسْمَعُونَ

ای روز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بیک میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔

## فصل (۱۹)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَلِيْلِهِ وَمَوْلَانِهِ عَلٰى الْمَنَّٰجِ وَصَلِّ عَلٰى الْمُحْمَدِ فَهٗ مَا دَعَ فِي سِرِّيْنِيْ

حَدِيثٌ فِي اعْجَازِ بِيَانِهِ

حضرتُ مُحَمَّدٌ كے خطاب کی بیان کی اعجازی

شان کا بیان

عَنْ عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَنَازِ الْمُؤْمِنِ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِ الْمُكَفَّرِ حَفَظَنَا اللَّهُ مَنْ حَفَظَهُ وَنَسِيْهِ مَنْ نَسِيْهُ - (رواہ البخاری) -

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قیام فرمایا ہوئے (اور خطاب فرمایا اپس آپ نے ابتداء کائنات سے جنت کی تھیں دخل ہو جانے سک کے حالات واقعات بیان فرمائیے۔ ان تفصیلات کو جس نے یاد کھا سے یاد رہا اور جس نے سچا دیتا سے بھول گیا۔



(اسے بخاری نے روایت کیا) -

فصل (۲۰)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ إِنِّي عَلَيْكَ مُسْتَدِرٌ وَمَوْلًا نَاجِحٌ وَعَلَى الْمُصْبِحِ بِهِ أَرْبَلْ وَمُسْبِطٌ

## حدیث فی الحجّانِ مَشْبِيهٍ

### حضرت مسیح امیر الامم کی رقامبارک کی انوکھی کیفیت کا بیان

عن اپنے هریرہ رضی اللہ عنہ  
 قال ما رأيْتَ شَيْئاً أَخْسَرَ من رسول اللہ  
 صلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتَ الشَّشْ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ  
 فِيمَا رأيْتَ أَحَدَ اسْنَعَ فِي مَشْبِيهِ مِنْ سَيْفِ اللہِ  
 صلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتَنَمَا الْأَرْضَ تَطْوَعَ لَهُ  
 إِنَّا لِبَعْدَهُمْ دَائِقُنَا وَإِنَّهُ لغَيْرٌ مُكْتَرٌ بِهِ - (رواہ  
 الترمذی) -

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  
 یہی نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معلوم صورت  
 نہیں دیکھی معلوم ہوتا تھا کہ آفتاب کی شامیں چہرہ انہوں نے نکل رہی ہیں میں  
 نے کسی شخص کو حضور سے زیادہ سبک رفتار نہیں دیکھا بلکہ معلوم ہوتا تھا  
 کہ گیاز میں آپ کے یہ مٹتی جارہی ہے ہماری سانس پھول جاتی تھی۔ اور  
 آپ بے پرواری سے چل رہے ہوتے تھے۔ (مسیح ترمذی نے دایت کیا)

حضرت علی المُتفقٌ شیرخاڑ مرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے اوصاف مبارک بیان فرمائے  
ہیں ان میں آپ کی رفتار مبارک کا ذکر اس طرح ہے :  
**إِذَا مَشَيْتَ تَقْلَعَ كَأَنَّمَا يَنْحُطُ فِي صَبَبٍ -**  
”آپ جمک کر پوری قوت کے ساتھ پلتے تھے گویا نشیب میں اتر رہے ہیں۔“  
حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
کے پابزرہ اوصاف، حُسن و جمال اور مُلیٰ مبارک کو جس خوبصورتی کے ساتھ نجھے نجھے اور  
دھونش پریلئے میں بیان فرمایا ہے اہل محبت نے اسے بہت اہمیت دی ہے اور ان کے حُسن پر  
گوفوب سراہ ہے۔ ان کی طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیں رفتار کا نقش ان  
لفاظ میں کھینچا گیا ہے :

**إِذَا زَالَ زَالَ قَلْعًا بَخْطُوَ تَسْكَنَيَا وَ يَمْشِي هَوْنَا  
نَرْيَعُ الْمِشَيَّةِ إِذَا مَشَيْتَ كَأَنَّمَا يَنْحُطُ مِنْ صَبَبٍ -**  
”آپ قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے (جیسے ایک بادقار طاقترا انسان اٹھاتا  
ہے) کندھے مبارک ہلا ہلا کر آہستہ آہستہ چلتے تھے (جیسے صبا کے بک خرام جھونکے  
سے شبانے مغل دائیں بائیں ہراقی ہے) رفتار مبارک خاصی تیز مرتبی تھی ایسا معلوم ہوتا جیسے  
گلاؤ سے یونچے اتر رہے ہیں۔“ (اسے ترمذی نے روایت کیا)۔

---



فصل (٢١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَمُنِّذْ لَهُ مَنْ يُحِبُّ وَعَلَى الْمُنْتَصِرِينَ هَذَا زَكْرٌ فَسَلَامٌ

## حديث في فضيلته على سائر الأنبياء والمرسلين

حضره صلى الله عليه وسلم كفضيلته وتماماً انبیاء کرام پر

### وقت کا بیان

عن ابن عباس رضي الله عنه قال حبس نائم من  
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

يُنتظرونَهُ فَأَخْرَجَ حَتَّى أَذَانَهُمْ فَ  
سَمِعُهُمْ فَتَذَكَّرُوا فَسَمِعَ حَدِيثَهُمْ فَ  
فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَجَابُ اللَّهِ اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيلًا  
أَخْدَى بِرَاهِيمَ خَلِيلًا وَقَالَ أَخْدَى إِذَا مَاعَنِيَ مِنْ كَلَامَ مُوسَى لَهُ تَحْكِيمًا  
وَقَالَ آخَرَ قَعِيسٌ كَلْمَةُ اللَّهِ وَرُفْخَةٌ وَقَالَ  
آخْرُ آدَمُ اضطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِ مُوْسَى وَقَالَ  
قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجِيزُكُمْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ  
وَهُوَ كَذِيلَكَ وَمُؤْسِي بَنِيِّ اللَّهِ وَهُوَ كَذِيلَكَ وَعَنِيَ  
رُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذِيلَكَ وَآدَمُ اضطَفَاهُ اللَّهُ

وَهُوَ كَذَاكَ الْأَقْوَانَ حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا خَرَقَ وَأَنَا حَمَلٌ  
 لِوَاءَ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا خَرَقَ وَأَنَا أَقْوَلَ  
 شَافِعَ وَأَقْوَلَ مُشْفَعَ دِيْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا خَرَقَ أَنَا  
 أَقْوَلُ مَنْ لَيَخْرِقُ حَلْقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي  
 فَيُدْخِلَ خَلْبِيهَا وَمَعِيَ فَقَرَاءُ الْمُنْفَرِينَ وَلَا خَرَقَ وَأَنَا  
 أَكْرَمُ الْأَقْوَلِينَ فَالآخِرِينَ وَلَا خَرَقَ - (رواہ الترمذی)

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے کئی اصحاب آپ کے انتظار میں بٹھتے تھے کہ استنسنے میں حضور علیہ السلام باہر تشریف لے آئے جب ان کے قریب ہوئے تو سن کر وہ آپ میں کچھ تذکرہ کر رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا؛ بڑے تھجب کی بات ہے (یعنی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے) نے کہا؛ یہاں سے زیادہ تھجب انگیز نہیں ہے کہ خدا نے رسول علیہ السلام سے کلام کیا۔

تیرسے نے کہا کہ علیے علیہ السلام اللہ کا کلمہ اس کی بروح ہیں چوتھے نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا چنانچہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان کے حلقت میں تشریف لے آئے۔ حضور نے سلام کیا اور فرمایا میں نے تم لوگوں کا کلام اور تھجب کرنا میں لیا ہے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ بیٹھ دوا یہے ہی ہیں (یعنی خلیل اللہ ہی ہیں) اور موسیٰ اللہ تعالیٰ سے

سرگوششی کرتے والے ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں اور علیہ السلام اس کی بح  
اور اس کا کلمہ ہیں وہ ایسے ہیں اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا  
اور وہ ایسے ہی ہیں تم لوگ آگاہ ہو جاؤ کہ یہیں اللہ کا حسیب ہوں۔

لیکن یہ فخر نہیں کہنا اور میں قیامت کے دن لوارا محمد اعظم نے والا ہوں۔  
اور مجھا س پر کوئی فخر نہیں، اور میں قیامت کے دن سب سے پہلا شفیع اور  
پہلا مشقیع ہو گا، اور مجھے اسکے کوئی فخر نہیں اور میں پہلا وہ شخص ہوں جو بہت  
کی زیبیر ہلاتے گا اور اللہ تعالیٰ اسے میرے یہے کھوئے گا اور مجھے اس میں دل  
کرے گا اور میرے ساتھ وہ مونین ہوں گے جذیفر (غرسیب مسلمین) تھے اور مجھے  
اس پر کوئی فخر نہیں اور اولین داعرین میں سب سے زیادہ مکرم و محترم ہیں ہی  
ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں (اسے ترمذی نے روایت کیا)



## فصل (۲۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَرَبِّنَا مُحَمَّداً وَبَلِّغْنَا إِلٰهَنَا وَصَاحِبَنَا زَكَرِيَّاً وَسَلِّمْ

تشریفہ بجمیع الفضائل والکرامات

حضرت علیہ السلام کے فضائل و ممالات و کرامات سے

### شرف ہو ز کابیان

عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ اہت رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم قال فَضَلَّتْ عَلَى الْأَنْبِيَاٰ لَبِسْتَ أُعْطِيْتَ حَوْلَ مَعَ الْكَلَمِ وَدَعَيْتَ بِالرُّعبِ وَأَحْلَقْتَ بِالْمَغَانِمُ وَجُعِلْتَ لِكَ الْأَرْضُ طَهُودًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْحَلْقَةِ كَافِةً وَخُتِّمَ بِكَ الْشَّيْوُونَ (شفقت علیہ) ابوہریریہ صنی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : مجھے دیکھا انبیاء پر چھ چیزیں کے باعث فضیلت وی گئی ہے ہیں جو امنع اکام سے نوازا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور میرے یہ اموراں غنیمت حلال کیے گئے ہیں اور میرے یہے (ساری) ارہیں پاک کر دیکھی اور سجدہ گاہ بنادی گئی ہے اور میں تمام محنوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میری آمد سے انبیاء کا سبل ختم ہو گیا ہے۔ (لے سے بناری و مسلم نے روایت کی)۔ وَفِي رِدَائِيَةٍ جَاءَ بْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ وَاعْطِيْتَ الشَّفَاعَةَ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا : مجھے مقام شفاعت سے بھی راز آیا ہے۔



فصل (۲۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَلِيْمٍ وَمُوْلٰا نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى الْمُحَاجِّةِ فِي هَذَا وَمُهَمَّلِكَ

## حدیث فی عنہ و شرفہ یوم القیامۃ حضرت اصلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بریز قیامت ظہرو شرف

### کابیان

عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خَرَجَ إِذَا يُعْشَفُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وُفِدُوا وَأَنَا حَاطِئُهُمْ إِذَا أَنْصَطُفُوا وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا أَحْسَنُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَذَا أَيُسْكُنُ أَنْكَرَمَةً وَالْمُغَنَّا تَسْبِعُ يَوْمَ مَيْدَنِ سِيدِي وَلِوَاءَ الْحَمْدِ يَوْمَ شِدَّدِ سِيدِي وَأَنَا آكْثَرُمُ وُلَيْدَةَ آدَمَ عَلَى رَيْقِ يَطْوُفُ عَلَيَّ أَلْفَ خَادِمٍ كَاتِمَ بَيْضٌ مَكْنُونٌ وَلُؤْلُؤٌ مَنْشُورٌ۔

(رواہ الترمذی والدارمی)

حضرت اس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سے یہ میں ہی اپنی قبر سے باہر نکلوں گا اور جب سب لوگ بارگاہ ایزدی میں آنکھے ہوں گے تو میں ہی ان کا پیشوادہ ہوں گا۔ اور جب سب لوگ غامر کش ہوں مجھ تریں ہی کلام کر دے گا اور جب کوئی

کلام نہ کر سمجھ گا تو میں ہی ان کی شخاعت کروں گا اور جب سو لوگ  
ایوس ہوں گے تو یہی ان کو رنجات کی) خوشخبری دل گا بندگی اور جنت  
رجت کی چاہیا اس روز میرے ہی ماخی میں ہوں گی اور لوار الحمد (حمد الہی  
کا جہنم) اس روز میرے ماخی میں ہو گا۔ میری عزت خدا کے نزدیک تمام  
ادل اور آدم سے زیادہ ہے اس روز ہزاروں خادم میرے اور دگر دگھوم ہے  
ہوں گے ایسا معلوم ہو گا کہ دھل گرد غبار سے محنوٹا (غصہ) سفید (غصہ صورت)  
انڈے ہیں یا سیکھے ہوئے مو قی ہیں۔ (اسے ترمذی اور دار می نے روایت کیا)۔



وَفِي رِدَائِيَةٍ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنِّي بَابُ الْجَنَّةِ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنْ سَفَّتُ فَيَقُولُ لَا خَانَتْ مِنْ أَنْتَ  
فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بَلَّا أُمِرْتُ أَنْ لَا أَفْتَمَ  
لِأَحَدٍ قَبْلَكَ - (رواہ المسلم)

اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں  
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے بعد جنت کے دروازہ پر  
آؤں گا اور اس سے کنکھ ٹاؤں گا جنت کا پرے دار خازن کہے گا آپ  
کون ہیں؟ پس میں حبوب دل گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ کہے گا کہ مجھے  
بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے جنت کا دعاوازہ کسی کے لیے بھی کھولو۔  
(اسے سلم نے روایت کیا)۔



فصل (۲۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْمَحْمُودِ فِيهِ مَا زَادَ وَمِنْهُ لَمْ يَكُنْ

### حدیث فی اسمائہ الشریفۃ

### حضرت مسیح کے اسماء پبارکہ کا بیان

عَنْ جَبَرِيلَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي خَمْسَةً أَسْمَاءً، إِنَّا نَحْدُثُ أَحَمَّهُ فَإِنَّا الْمَاحِظُ الَّذِي يَمْحُوا اللَّهُ بِهِ الْكُفَّارَ وَإِنَّا الْحَاسِرُ الَّذِي يُخْشِرُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْمَيِّنَا فَإِنَّا الْعَاقِبُ - (متفق عليه)

جبریل مطعم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :  
 میرے پانچ نام میں میں محمد اور احمد ہوں اور میں ناجی (ملائے والا) ہوں  
 کہ اللہ تعالیٰ میرے فریے سے کھفر کو محو کرنے گا اور میں حاشر ہوں۔ سب  
 لوگ میری پیروی میں ہی (روز حشر) اٹھائے جائیں گے اور میں عاقب  
 ہوں (رسبے آخربیں آئے والا ہوں) - (اسے بخاری دسلم نے روایت کیا)۔



” وَفِي رَدِ ابْيَةِ التَّرمذِيِّ إِنَّا الْعَاقِبُ  
 الَّذِي لَيْسَ بِعَدِيْنِيْ ”

ترمذی کی روایت میں ہے کہ  
 میں عاقب ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔



## فصل (۲۵) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَرِّحْ عَلٰى سَلَامٍ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلٰى اللّٰهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِّيَارِ الْمُسْلِمِينَ

**عدم مثيلته باحد من العالم البشري**

**حضرت اشترکی بے مثیلت اور لم بشری ہیں**

### الفواید کا بیان

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله  
صلوا اللهم عليه وسلم

عن الوصال قالوا انك توصيل؟ قال صلوا اللهم عليه وسلم  
إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقِي

وفي رواية أنس رضي الله عنه قال صلوا اللهم عليه وسلم  
لست بأحد مثلكم

وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال صلوا اللهم عليه وسلم  
إِنِّي أَبَيَتُ لِمُطْعِمٍ يُطْعِمُنِي وَسَاقِي سَقِيرٍ

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال صلوا اللهم عليه وسلم  
إِنِّي أَتُكُوكُمْثِلِي إِنِّي أَبَيَتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَسَاقِي سَقِيرٍ - (رواية بخاري)

عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرميَتْ ہیں رسول الله صلوا اللهم عليه وسلم نے (صحابہ کو)  
صمیم وصال سے منع فرمایا۔ صاحبہ نے عرض کی:  
(یا رسول اللہ) آپ تو صمیم وصال رکھتے ہیں حضور نے فرمایا:

یہ تہاری مثل ہیں ہوں مجھے کھلایا اور پلا یا جاتا ہے۔

روایت انس رضی اللہ عنہ میں ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی ایک شخص جیسا بھی نہیں ہو:

روایت ابی سعید رضی اللہ عنہ میں ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں رات گزارتا ہوں مجھے کھلانے والا کھلاتا ہے اور پلانے والا پلاتا ہے۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تم میں سے کون میری مثل ہے (یعنی میری مثل کوئی بھی نہیں ہو سکتا) میں اس

حال میں شب ببر کرتا ہوں کہ مجھے میراث کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

(اسے بخاری نے روایت کیا)۔



فصل (٢٦)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمَحْبُوبِينَ مَنْ هُوَ مِنْهُ مَازِفٌ وَمِنْهُ مَنْ زَانَ

حديث في جهد الصحابة لغاية تعظيمه

حضرت اشترىت کی عظام و تکریم میں صحابہ کرام کے

معمولات مبارکہ کا بیان

عن سهل بن سعد بن سعد اساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني سخراة بيت عوف ليصلح بينهم و فحانت الصلوة فجاء المؤذن إلى المسبك فقال أتصلى للناس فاقيل قاتل نمر فصلى أبو بكر رضي الله عنه بخاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوة فتخلص حتى وقف في الصف فصنف الناس وكان أبو بكر لا يلتقي في صلوته فلما أكل الناس المصفيق انتقضت فرأى رسول الله ما شارط به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك ففع أبو بكر بيده في والله على ما أمره به رسول الله صلى عليه وسلم من ذلك ثم استأذن خارج أبو بكر حتى استوى في الصف و تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل

فَلَا أَنْصَرْتَنِي قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَبْثِثَ إِذَا أَمْرَتُكَ فَقَالَ أَبْعَدْتُكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ لَا بِنِي خَافَةً أَنْ يُصَدِّقَ بَيْنَ يَدَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُبَيِّنُ مَا لَيْسَ دِيَّكَ إِنَّمَا يُتَكَبِّرُ الْكُفَّارُ مَنْ نَأَبَهُ شَيْءًا فِي صَلَاتِهِ فَلَيُسْتَخِجَ فَإِنَّهُ أَذَا سَبَّعَ أَنْتَعْتَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلشَّاءِ - (رواہ البخاری) -

سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں صلح کرنے کیلئے تشریف لے گئے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ موزن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی:

کیا آپ نماز پڑھادیں گے؟ تاکہ میں اقامت کہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانا منزوع کر دی دو ران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفوں کو چرتے ہوئے صفت اقل میں جا کر کھڑے ہو گئے لوگوں نے تایاں بجا بیس رعنی ا پسندے ہاتھ پر ہاتھ مارے (لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ، نماز میں کسی اور جا باب المفات نہیں فرمایا کرتے تھے (یعنی کامل محوبیت کا علم ہوتا تھا) جب تایا اس کی آواز زیادہ ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے المفات فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اور یہ سمجھیج بنے کا راہہ کیا (لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی حکم پر قائم ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ انٹھا کر خدا کا شکر کردا کیا کہ رسول اللہ نے انہیں امامت کا حکم دیا ہے۔ اس کے

بعد اب بکر رضی اللہ عنہ پیچے ہٹے حتیٰ کہ صفتِ اول کے برابر آگئے اور حضور  
نے آگے تر ہو کر امامت کرائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے حضرت  
اب بکر رضی اللہ عنہ، سے قرباً جب میں نے حکم دیا تھا تو تم مصطفیٰ پر کیوں نہیں  
مُلْهَبَرے ہے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابی قاتد کے میٹے کو یہ  
کب سزاوار ہے (مناسب) ہے کہ وہ حضور کے سامنے امامت کرے۔  
اس کے بعد حضور نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اسکی کیا وجہ ہے  
کہ میں نے تمہیں نالیاں بجاتے دیکھا اگر کسی کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے  
تو (بلند آواز سے) سجان اللہ کے۔ چنانچہ جب وہ سجان اللہ کے تزویز سترے  
کو چاہیئے کہ اس کی طرف دھیان رہے۔ اور نماز میں نالیاں بجانا رسمی دخوا  
پر لامکارنا (تو حرف عور توں کے بیٹے مخصوص ہے)۔ (اے بخاری نے روایت کیا)۔



فصل (٢٧)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمَصْحَنِ فِي مَارِسَةِ سَيِّدِنَا

حَدِيثِ فِي حَالَةِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْفَرْجِ بِرُؤْيَا تِمَّ

حَضْرَتِ اشْكَانِ كَحِ دِيدِرِ سَهْجَابِ كَرَمِ كَوِ

حَالِ هُوزِ وَالِّي بَرِ پَایاں مَسْرَتِ کَا بَیَانِ

عَنِ النَّسَّ بنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
وَكَانَ تَبَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدَمَهُ  
وَصَاحَبَهُ أَبَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ  
يَصْلَى لِهُ فِي وَجْعِ ابْنَتِ مَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الَّذِي تَوَفَّ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ  
الْأَشْنَئِينَ وَهُوَ صُفْقُوفٌ فِي الْمَسْلَوَةِ تَكْثُفُ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَرَ الْحُجْرَةِ يُنْظَرُ إِلَيْنَا  
وَهُوَ قَامٌ كَانَ وَجْهُهُ وَدَقَّةً مُصْحَفٌ  
شَفَرٌ تَبَسَّمٌ يَصْنَعُكَ فَهَمَّنَا أَنْ نَقْتَبَ  
مِنَ الْفَرْجِ بِرُؤْيَا تِمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَنَكَصَ أَنْوَبَكَ عَلَى عَقْبَيْهِ لِيَصْلِي  
الصَّفَرَ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَارِجُ الْمَعْلُوَةِ فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّ أَتَمُوا صَلَاتِكُمْ وَأَنْحِي السِّترَ فَتَقُوْفِي مِنْ يَوْمِهِ -  
(رواہ البخاری)

انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

(اور وہ حضورؐ کے خادم خاص تھے) کہ حضورؐ کے مرض الموت میں تصر  
ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھلتے تھے چنانچہ دو شنبہ کے روز اگر  
صفیین بناتے کھڑے تھے کہ اتنے میں حضورؐ نے حجرہ مبارک کا پردہ  
اٹھایا اور کھڑے کھڑے جماعت کو دیکھنے لگے۔ اس وقت حضورؐ کا  
چہرہ اور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا جماعت کو دیکھ کر آپ  
مسکولئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر نوار کی خوشی میں قریب  
تمہارکے غلام نماز ترددیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا۔ شاید حضورؐ  
نماز میں تشریعت لائے ہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنیوں کے مل  
بھی ہست کر صفت میں مل جانا چاہا لیکن حضورؐ نے اشارہ سے فرمایا کہ  
تم لوگ نماز پوری کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا  
اور اسی روز آپ کا وصال ہو گیا۔ (لےے بخاری نے روایت کیں)۔



# فصل (٢٨)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَمُوْلَى الْمُجْرِمِ وَعَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آنَّهُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدِيثُ فِي تَرْكِ الْكَثَارِ سَوْالُهُ تَوْقِيرُ الْأَنْوَارِ

حَضُورُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ بِارْكَاهُ مِنْ زِيَادَةِ سَوْالِتَاتِ كَمْ

## مَالِعَتْ كَا بِيَان

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَسَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ ذَاعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظَّهَرُ  
فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى السَّبِيلِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ الْمَبْيَنَ  
يَدِهَا أَمْوَالَ عَظِيمَةً ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ  
يَنْتَلِقَ عَنْ شَيْءٍ فَلِيَسْأَلْ أَعْنَهُ فَقَالَ اللَّهُ لَا تَسْأَلْ وَمَا  
عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دَمْتُ فِي مَقَامِ هَذَا  
قَالَ اسْفًا كَثُرَ لِلنَّاسِ إِبْكَاءً وَأَكْثَرُ رُسُولَ اللَّهِ  
إِنْ يَقُولَ سُلُوفٌ قَالَ أَسِّ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ  
إِنِّي مَدْخُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّارِ  
فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَدَّافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبْيَ يَسْأَلُ  
(اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ أَبْلُوكَ حَدَّافَةَ -  
وَفِي رِعَايَةِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَرَّ  
فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبْيَ فَقَالَ أَبْلُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ قَالَ

شَرِّاكَثَاتْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي قَالَ فَبَرَكَ  
 عَمْرُ عَلَى رَبِّكَبَتِيهِ فَقَالَ رَمِينَا بِاللَّهِ دِبَاؤَ بِالْاسْلَامِ  
 دِبَاؤَ بِمُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ وَفِ  
 دِعَا يَةً فَلَمَّا رَأَى عَمْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَوْجَهَ رَسُولُ اللَّهِ  
 مِنَ الْغَصَبِ قَالَ إِنَّا نَسْوَبُ إِلَى اللَّهِ شَمَرْ قَالَ  
 الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّتِي نَشَى بِيَدِهِ لَقَدْ عَصَمْتُ  
 عَلَى الْجَنَّةِ وَلَذَّامِ الْأَنْفَافِ عَرَجْنَ هَذَا الْحَاطِطِ وَامَّا  
 أَمْلَى فَلَمَّا أَرَى كَانِيَوْمَ فِي الْخَيْرِ فَالشَّرِ - (متفق عليه) -

انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آنتاب ڈھلا تو حضور  
 علیہ السلام تشریف لائے اور طبری کی نماز پڑھائی پھر سلام پھیرنے کے بعد اپنے نہر  
 پر جلوہ افراد ہوئے اور قیامت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اس سے پہنچنے  
 پڑے امور ہیں۔ پھر فرمایا۔ تم میں سے کوئی شخص کسی بھی نوعیت کی کوئی بتا  
 پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھے، خدا کی قسم میں جب تک یہاں کھڑا ہوں تم جو  
 بھی پوچھو گے اس کا جواب دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  
 لوگوں نے زار و قطار و فنا شروع کر دیا حضور علیہ السلام رحمۃ کے سبب سے  
 بدل باریہ اعلان فرماتے تھے کہ کوئی سوال کر دے (پوچھو پوچھو) حضرت انس کہتے  
 ہیں کہ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! میرا تمہکا نہ بکھا ہے  
 آپ نے فرمایا کہ "دونخ" ۔ پھر عبد اللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے اور عرض کی  
 یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا! حذافہ

ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں ہے کہ پھر ایک شخص کھڑا ہوا در عرض کی  
میرا باب پکون ہے؟

حضرت نے فرمایا! بتیرا باب پکالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ حضرت انس  
عنی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور پھر بار بار فرمانے لگے (جو کچھ چاہتے ہو)  
پوچھ لو۔ پوچھ لو (انس کہتے ہیں) حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو اپنے  
کھنڈوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا "رَحِيمُنَا بِاللَّهِ رَبِّنَا وَبِالْإِسْلَامِ دِينُنَا  
وَبِيْمُحَمَّدِنَا سُولُّنَا" جب حضرت عمر نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خامش  
ہو گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چہرہ اندر پر  
غصب کے آثار دیکھیے تو کہا ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں پھر حضور نے  
فرمایا! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ تدت میں میری جان ہے!  
"جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس دیوار کے کونے میں جنت اور  
جہنم سے سامنے پیش کی گئیں میں نے خبر دشتر میں آج جیاں  
نہیں دیکھا۔ (اسے بندری وسلم نے روایت کیا)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل (٢٩)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الَّذِينَ هُمْ بِكَارِ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَنْصَرُ

تَخْيِيرِ اللَّهِ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضر وصل عليه الرَّبِيعُ كَوْلُوقَتْ وَصَالْ خَتْسِيَارْ

### دِيَنْ جَانْ كَابِيَانْ

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ  
بَنِي حَتَّى يُعْلَمَ بَيْنَ الْمَيَا وَالْأُخْرَةِ سَمِعْتُ ابْنَيْ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرْضَهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَ  
أَخْذَتْهُ نَجْةٌ يَقُولُ مَعَ الدِّينِ أَغْمَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ...  
الْأَيْةُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ حَيَّ

وَفِي رَوَايَةِ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ ابْنَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ نَجْةً حَتَّى يَرِيَ مَقْعَدَهُ  
مِنَ الْجَنَّةِ شَمْوَخَيْرَ فَلَمَّا مَرَّ بِهِ وَرَأَ سَهَّةً عَلَى فَخْذِي  
غَشَّى عَلَيْهِ شَمْوَأَفَاقَتْ فَأَتَشْخَصَ لِصَرَرَةِ الْأَسْقَفِ  
الْبَيْتِ شَمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ فِي الْأَعْلَى فَقَدْلَتْ  
إِذَا لَا يَخْلُدُنَا وَغَرَّفَتْ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الْمَعْتَدِلُ كَانَ  
يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ - (مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عالیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ میں قضا کرتی تھی کوئی نبی کا اس وقت  
کے انقال نہیں ہوتا جب تک اسے دینا دا خیرت دونوں میں سے کوئی ایک کو پانے  
کا اختیار نہیں دے دیا جانا چنانچہ مریض وفات میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم  
کے صلن مبارک میں کوئی چیز لٹکی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے حضور نے بیہتی  
تلادت فرمائی۔ «مَعَ الذِّيْنَ الْخَرُوْلِلَهُ عَلِيْهِمُ»..... الحـ  
نزیم بھگتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو (موت کے مندر پر) اختیار دے دیا  
گیا ہے اور آپ رعنی اللہ عنہا فرماتی ہیں (دوسری روایت میں ہے) کہ  
حضرت عالیہ السلام تندرستی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت تک  
کسی نبی کا انعام نہیں ہونا جب تک اسے بہشت میں اس کی جگہ نہ دکھادی  
جائے اور پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے (کہ دنیا و آخرت یعنی زندہ رہنے یا  
وفات پانے میں سے جسے چاہے پسند کرے اچنانچہ جب حضور علیہ السلام  
اور وقت وفات قریب آیا تو ان کا سر انور میری ران پر تھا اور آپ پر ٹھاٹ  
معنی طاری تھی۔ پھر آپ ہوش میں آکے تر مکان کی پھٹت کی طرف آئیں  
”أَنْهَا كُحْ فَرِمَيْاً ” اللَّهُوَ الرَّفِيقُ الْأَعْلَمُ، میں نے کہا اب حضور میں  
اختیار نہیں فرمائیں گے اور میں جان گئی کہ یہ وہی بات ہے جو آپ ہمیں بجا تھا  
صحبت بتایا کرتے تھے۔ (اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا)



فصل (۲۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَلَيْدَرِ مُولَادِنَابِخِمْدَرِ عَلَى الْمَرْعَنْتَهْ فِي مَارِلِوبِتَنْمَ

الْتَّبَرُكُ بَعْرَقِهِ سَلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ

حضرت ام سیم کے پیدائش مبارک - تبرک حاصل

- کرنے کا بیان

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَاتَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمَ فَيَنَامُ عَلَى فَرَشَهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ  
قَالَ خَاءِذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فَرَشَهَا فَأَتَتْ فَقِيلَ  
لَهَا هَذَا الَّذِي نَارِمٌ فِي بَيْتِكَ عَلَى فَرَشَكَ قَالَ  
جَاءَتْ وَقَدْ عَزَّزَهُ - وَاسْتَفْعَقَ عَرْقَهُ عَلَى قَطْعَةِ  
أَدِيرٍ عَلَى الْفَرِشِ فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهِا فَجَعَلَتْ تُشَفِّ  
ذَالِكَ الْعَرْقَ - فَتَعَصَّرَ فِي قَوَافِرِهَا فَقَرِنَ عَلَيْهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامٌ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمَ فَقَالَتْ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى بَرَكَتَهُ لِصَبِيَّاتِنَا قَالَ أَصْبَتِ - (رواہ مسلم)  
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت افسوس سے اللہ  
علیہ السلام ام سیم کے ہال تشریف لاتے تھے اور ام سیم کی عدم موجودگی میں  
ان کے بستر پر رسول جاتے تھے ایک روز حسب عمل تشریف لاقرآن سیم

کے بستر پر گئے اُم سیم آئیں تو انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
گھر کے اندر تمہارے بستر پر استراحت فرمائے ہیں آکر دیکھا (اندر تشریف لائیں)  
تو حضور کو پسینہ ادا تھا اور بستر پر جو چڑی کا نکرنا تھا وہ پسینہ سے بالکل  
تھر تھا اُم سیم نے اپناؤ بھولانا اور پسینہ مبارک کو (کسی کچڑی پر) دیغیرہ میں (تر  
کر کے شیشی میں پخواڑتے تھیں۔ اچانک حضور کو یم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو  
گئے یہ منظر دیکھ کر فرمایا : اُم سیم ! کیا کرو رہی ہو۔

اُم سیم نے عرض کی یا رسول اللہ ! صلی اللہ علیہ وسلم !  
ہم اس سے اپنے بچوں کے لیے برکت کی اُمید رکھتے ہیں۔  
فرمایا۔ تجھیک ہے۔ (اسے سلم نے ردایت کیا) ۔



فصل (۳۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّصَلِّ عَلٰى الْأَئِمَّةِ وَرَبِّ الْأَئِمَّةِ وَارْسِلْهُ فِي زَادِ فَيَسِّرْهُ

حَدِيثِ فِي التَّبَرِّكِ بِشِعْرٍ ۝

حضرت اُمّةِ الْمُسْلِمِوْنَ کے گیسوں مبارک نتے تبرک صل

کھنڑ کا بیان

عَنْ أَنْسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمَّاقَ يَخْلُقُهُ فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ  
فَمَا يُرِيدُ فَتَأْنِي تَقْعُ شِعْرٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ -

(رواہ مسلم)

وَفِي تَعْلِيَةِ عَنْهَا أَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَمَّا حَلَقَ رَسُولُهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَقْلَمَ مِنْ أَخْذِ  
مِنْ شِعْرٍ - (رواہ البخاری)

حضرت اُمّتِ الرَّحْمَنِ فرماتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا جس وقت جام  
حضرت نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی جامت کرتا تھا بال کاٹتا تھا تو صحابہ اسے  
گھیر لیتے تھے اور کسی ایک بال کو جسی ما تھی کے علاوہ یعنی ڈنگرنے دیتے تھے  
اور آپ ہی سے مردی ہے کہ جب رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنے  
سر انداز کے بال معدنے ترا ابو طلحہ پہنچے تھے جنہوں نے حضرت کے موئے مبارک  
(ما تھیں) میلے۔ (بخاری و مسلم)

فصل (۳۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمَصْحَنِ هَذَا وَسَلِّمْ

حدیث فی البر کے فضائل وَضُوئِهِ

حضرت مسیح موعود کے وضو مبارک کے پنج ہوڑے پانی

سے برک حاصل کرنے کا بیان

عن ابی جعیفۃ الرَّضیفِ اللَّهُ عَنْہُ

قال رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمِ وَرَأَیْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ  
رَسُولِ اللَّهِ وَرَأَیْتُ النَّاسَ يَبْتَدِعُونَ ذَلِكَ  
الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْءًا تَمْسَحَ بِلَهٗ وَ  
مَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْءًا أَخَذَ مِنْ بَلَلٍ يَدِ

(رواہ ابخاری)

صَاحِبِهِ

حضرت ابو تھیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑے کے سُرخ قبہ میں دیکھا اور حضرت  
بلال کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا (استعمال شدہ) پانی یہے  
کھڑے ہیں اور لوگ اس پانی کی طرف پیش دتی کر رہے ہیں چنانچہ جس کو حضور  
کے دھنوہ کا پانی (استعمال کردہ) مل جانا وہ اس کو جسم پر مل لیتا تھا اور جسے

نہ ملنا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ترمی لے لیتا تھا۔



وَفِي رِعَايَةِ أَبِي مُوسَىٰ  
دُعَاءَ الَّتِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَرِ حَفْظِهِ مَا هُوَ فَعَنْهُ  
يَدِيهِ وَفِي جَهَنَّمَةِ فِينَهُ وَمَعَهُ فِيهِ شَكَرٌ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَشْرَبَ  
مِنْهُ وَأَفْرَغْتَ عَلَيَّ وَجْهَهُ حَكْمَكَمًا وَخَلَدَ كَمَّا (زروادہ المغاری)

ابو موسیٰ اشرفیؑ کی روایت میں ہے کہ  
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک بڑا پیالہ منگولیا اور اسی میں دلوں  
لامتحوں کو اور چہرہ اور کوہ ہموہ اور اسی میں کلی کی اور بھرپڑیا باتم اسی میں سے کچھ  
پی لو اور کچھ اپنے چہرہ اور سینوں پر مل لو۔ (مسنے بخاری نے روایت کیا)



فصل (٣٣) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَلَيْلَةِ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلٰى الَّذِينَ هُنَّ مُصَحِّحِينَ فِي دِرَجَاتِ أَوْسَطِكُنَّ

حَدِيثٌ فِي مَعْرِفَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ حَيْثُ وَضَعَ اللّٰهُ

كَفَهُ بَيْنَ كُتْفَيْهِ

حضرَ مَسْلِيْلَمْ كَوَدَسْتِ قَدْرَتِ کی بُدْلَتِ هَرَشِ

کی مَعْرِفَتِ حَالِ ہُونے کا بَیَان

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنَّا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاءٍ عَنْ مَسْلِيْلَمْ كَوَدَسْتِ قَدْرَتِ حَتَّى كِدْنَا نَتَلَ آئِيْتَ الشَّيْسِ خَرْجَ سَرْلِيْعَا فَتَوَبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ تَهْمِيمَةٍ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ فَقَالَ لَنَا عَلَى مَصَافِحِكُمْ كَمَا أَسْتَمْ تَعْلَمُنَا إِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي فِي سَاحِدَتِكُمْ مَا جَسَّسْتُ عَنْكُمْ إِنَّكُمْ قُدُّسُكُمْ فَقُدُّسُكُمْ اللّٰلِيلُ فَقَوْضَانَاتُ وَصَلِيلَتُكُمْ إِنَّكُمْ فَنَسَسْتُ فِي صَلَاةِ تَهْمِيمَةٍ حَتَّى أَسْتَغْلِلَتُكُمْ فَإِذَا أَنَا بِرَجَبٍ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صَوْنِيِّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ

لَيْلَكَ رَبِّ قَالَ فَيْمَا يَحْتَصِمُ الْمُلَاءُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَأَدْرِي  
 فَإِلَهًا ثَلَاثًا قَالَ فَلَيْتَهُ مَنْعَ كَفَةَ بَيْنَ كَثْنَ حَقَّ  
 وَجَدْتُ بَرْدًا نَمْلَهُ بَيْنَ ثَدَيْنِ فَجَعَلَ لِكَلْ شَهْوَ  
 عَرَفْتُ وَفِي رَوَايَتِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشَةَ وَابْنِ  
 عَبَّاسَ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَقَالَ  
 يَا مُحَمَّدَ قَدْتُ لَيْلَكَ رَبِّ قَالَ فَيْمَا يَحْتَصِمُ الْمُلَاءُ  
 الْأَعْلَى قُلْتُ فِي الْكَفَارِ أَتِ قَالَ وَمَا هَذَا قُلْتُ  
 مَنْقُ الأَقْدَامِ الْجَمَاعَاتِ وَالْجَلُوسِ فِي  
 الْمَسَاجِدِ بَعْدِ الصَّلَاةِ وَالسَّبَاعِ الْوَصْنَوِ حِينَ  
 الْكَرْمَيَاتِ قَالَ شَهْرٌ فِيمَا قُلْتُ فِي الدَّرَجَاتِ قَالَ  
 وَمَا هَذَا قُلْتُ اطْعَامُ الْمَطْعَامِ وَلِيَنْبَتِ الْكَلَامُ الْمُلْكُ بِأَشْيَلِ  
 وَالْأَسْسِ بِيَمِّ قَالَ سَلَ قَدْتُ الْهُنُوْلِ فِي أَسْنَلِكَ  
 قَعْلُ الْخَنَرَاتِ وَتَرْلَكُ الْمُشَكَّرَاتِ وَحَبَّ الْسَّاَلِكَينَ  
 وَأَنْ تَنْفَرُ لِلْمَحْفَرِ وَتَرْحَفُ فَإِذَا أَرْدَتَ فِتْنَةً  
 فِي قَوْمٍ فَتَوْفِيقُ عِنْرِمَقْوِنِ فَأَسْنَلَكَ  
 حُبَّكَ وَحَبَّ مَنْ يَحْبِكَ وَحَبَّ مَحْلِ لِقَرْبَنِ  
 إِلَى حُسْبَكَ فَعَالَ نَسْوَلُ اللَّهِ إِنَّهَا حَقٌّ فَادْسُوْهَا  
 شَهْرٌ لَعْمَنْهَا - .

(رواہ الترمذی و محمد البخاری)

معاذ بن جبل فرماتے ہیں -

ایک مرتبہ جمع کی نماز کے وقت حضور کو دیر ہو گئی اور ہم لوگوں نے آپکا

انتظار اس حدائق کیا کہ قریب تھا کہ آفتاب کی شعاع نظر آنے لگے۔  
انتہے میں نئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبریز سے تشریف لائے۔  
چنانچہ تمجید گئی اور آپ نے اختصار سے نمازِ پڑھائی۔

نماز سے فراغت کے بعد آپ نے باواز بلند دعا فرمائی۔ اور ہمیں فرمایا کہ جس طرح  
تم بیٹھے ہو۔ اسی طرح صرف بندی کیے ہو۔ بیٹھے رہو۔ پھر فرمایا اپنی تاخیر کا  
واقعہ تم کو سناتا ہوں۔ پھر واقعہ سنایا (واقعہ یہ ہے)

رات کے وقت دضو کر کے جس قدر نمازیمرے یہے مقدر تھی میں نے  
پڑھی اس کے بعد مجھکو نیند آگئی اور میں نماز ہی میں سو گیا۔ یکاکہ کیا دیکھتا  
ہوں کوئی میں اپنے رب کے حضور میں ہوں اور میں نے اپنے رب کو (اس  
کی شان کے لائق) نہایت اچھی شکل میں دیکھا (محفوظ سے) ارشاد ہوا۔ اے  
محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے عرض کی: بیک! اے میرے رب! میں  
حاصل ہوں! فرمایا اس وقت ملائکہ آسمانی، کیا گفتگو کر رہے ہیں میں نے عرض  
کی: مجھے معلوم ہیں۔ تین مرتبہ بھی ارشاد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے  
ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر  
رکھا حتیٰ کہ میں نے اسکی انجلیوں کی ٹھنڈک اپنے دونوں پستانوں کے  
درمیان محسوس کی: پس ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پیچاں  
عبد الرحمن بن عاش اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور نے ذمیا  
کو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا مجھے اس کا علم ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوا:  
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے عرض کی: اے میرے رب! حاصل ہوں فرمایا  
(اب تباو) ملائکہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی: کہ کھارات کے متعلق

ذکر ہو رہا ہے۔ فرمان ہوا : وہ (کھارات) کیا ہیں ؟ میں نے عرض کی :  
 جاعت کی نماز کے لیے قدم بڑھانا اور نمازوں کے بعد مساجد میں بٹھنیا اور  
 باوجود دشواری کے کامل وضو کرنا، فرمایا : اور کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے ؟  
 میں نے عرض کی : (جنت میں) درجات عالیہ کا۔ ارشاد ہوا : وہ کیا ہیں ؟  
 میں عرض کی : (غرباء و مساکین) کو کھانا کھلانا، اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور  
 نماز پڑھنا، جب وقت کر لوگ غواصتراحت ہوں۔ ارشاد ہوا ! کچھ نہ ہو،  
 میں نے یہ دعا کی «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرِ أَتَتِ»  
 ..... (اللَّهُ حُلْكَ ..)

پھر حضرت نے فرمایا (میرا یہ خواب) سچا ہے یعنی (یہ واقعہ سچا ہے)  
 اس دُعا کو یاد کر لو اور لوگوں کو سمجھا دو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور بخاری نے  
 اس روایت کو صحیح قرار دیا)۔



فصل (٢٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ سَلَامًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَلَى الْمُحْمَدَيْنَ فَإِذَا فَيَسَرَكَ

حَدِيثُكَ فِي رَفْعِ الْقَحْطِ بِرُكْنَةِ دُعَائِهِ

حضرتِ مَلِيُّ الدِّينِ كَيْ دُعَاءِ سَقْطِ دُورِ هُونَ كَا بِيَان

عَنْ أَنْسٍ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَطْعٌ عَلَى  
عَمِيدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا هُوَ يُخَطِّبُ  
يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
هَلْ كَتِتِ الْكُرَاعُ وَهَلْ كَتِتِ الشَّاءُ  
وَرَوَ فِي رَوَايَةِ قَالَ وَيَا رَسُولَ اللَّهِ قَطْعُ الْمَطْرِ وَاحْمَرَتِ  
الشَّجَرُ وَهَلْ كَتِتِ الْيَهَارُ

فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا فَمَدِيدِيهِ وَدَعَا  
قَالَ أَنْسٌ وَأَنَّ السَّمَاءَ لِشَلُّ النَّجَاجِةِ فَهَا جَتِ بِرَبِيعِ  
أَثَاثَ سَحَابَاتِ شَوَّا جَمِيعِ شَوَّارِ مُسْلِتِ اسْسَمَاءِ عَزَّلَهَا  
فَخَرَجَنَا لِخُونَضِ الْمَاءِ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَانِهِ كَافَلْ نَزَلَ  
تَمُطَرِّمًا لِلْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ  
أَوْ عَيْرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّتِ مَيْتَ الْبَيْوتِ.

(وَفِي رَوَايَةِ وَالْفَقْطَعَتِ الْمُسْبِلِ)

فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسَهُ فَبِسْمِ شَمْرٍ قَالَ حَمَالِيَتِ رَكْ

عَلِسْتَ أَفْتَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ  
كَأَنَّهَا أَكْلِيلٌ۔

وَفَ رِوَايَةً فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَّا نَجِيَّةٌ مِنْ  
السَّحَابَ إِلَّا فَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ  
الْجُنُوبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَاتَةً شَهْرًا ۱- (رواه ابن عمار)



انہ فرماتے ہیں

ایک بار عبد الرحمٰن بن مديینہ میں خط طیا چھوڑ کے روز حضور ﷺ  
علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی : یا رسول اللہ !  
صلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ گھوڑے اور سبکیاں تباہ ہو گئیں ۔

(دوسرا روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ، بارش رک گئی۔  
دخت سوکھ گئے اور جانور ہلاک ہو گئے)

آپ خُدا تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کریں حضور نے دست اقتضی  
اٹھا کر دعا فرمائی ۔ حضرت انہ فرماتے ہیں کہ آسمان اس وقت خیشے کی طرح  
صف تھا ۔

(لیکن یعنی حضور کی دعا ہے) فیماً ایک ہوا جلی اور ابر اٹھ کر آیا اور پھر گھننا ہی گھننا  
بھر آسمان نے اپنے دھانے کھول دیے (یعنی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی)  
ہم دہاں سے نکلے اور بارش میں بھیگتے اور پانی میں ڈوبتے ہوئے اپنے  
گھر ڈن کر پہنچے ۔

دوسرے جمیعتہ نگہسل بارش ہوتی رہی اس دوسرے جمیع کو پھر دہی یا کوئی اور  
شخص اٹھا کر عرض کی ، یا رسول اللہ ! مکانات منہدم ہو گئے ۔

(ایک روایت میں ہے کہ راستے منقطع ہو گئے ہیں)

آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ سلسلہ رُک جائے۔ آپ سکرا دیے۔ پھر دعا کی۔ یا اللہ! ہمارے اروگرد ہوا اور ہمارے اوپر نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ اب بچھٹ کر مدینہ کے اروگرد چلا گیا اور مدینہ کے اوپر کا آسان تاج کی شل ہو گیا۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ جس سمت میں ہاتھ سے اشاؤ فرماتے تھے بادل بچھٹ کر اسی طرف چلا جانا تھا (بالآخر چاروں طرف بارش ہوتی ہے) اور مدینہ درمیان میں مکمل کی طرح رہ گیا اور ایک ماہ تک قنات "نامی نالہ بہتار" (اسے بخاری نے روایت کیا)۔



## فصل (۲۵)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى الْأَئِمَّةِ وَصَلِّ عَلٰى الْأَئِمَّةِ مَنْ يَرِدُ فَإِنَّمَا يُرِدُ مَنْ يُرِدُ

حدیث فی شیع الماء مت بین اصحابہ



حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے پھٹے

پھٹوٹے کا بیان

عن جابر بن عبد الله

قال عطش الناس يوم الحديبية والتوصل الله  
عليه وسلم بيته يده ركوة فتوضا بهمش الناس  
نحوه قال ماكم قالوا ليس عندنا ما نتوضا  
ولا نشرب الا ما بنيت يده يك فوضع يده في الركوة  
جعل الماء يسود بين اصابعه كمثال العيون فشربنا  
وتوضينا قلت كرمكم قال لو كان ما ثمة ألف لكتها  
كان خمس عشرة مائة وف روایۃ اربع عشرة  
مائة

(متفق عليه)

جابر بن عبد الله فرناتے ہیں۔


حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی تھیں پانی نہ ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھپکل رکھی ہر لئی تھی آپ نے اس سے دخوازیا۔

(بعدیں) لوگ اس کو پینے کے لیے بھپٹھ حضور نے فرمایا؟ یکروں کیا  
بات ہے؟ صحابہ نے عرض کی:

حضرت ہمارے پاس نہ دھنوتے کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے۔  
صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے حضور نے ریستگری دست  
مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فراً چشمیں کی طرح پانی انجلیوں کے درمیان  
سے جوش مار کر نکلنے لگا چنانچہ ہم سب نے وضو بھی کر لیا اور پی بھی لیا۔  
(سلم کہتے ہیں) میں نے حضرت جابر سے پوچھا اس وقت آپ کتنے آدمی  
تھے؟ انہوں نے کہا! ہم پندرہ سو آدمی تھے لیکن اگر ایک لاکھ بھی ہوتے  
جب بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا۔

”دوسری روایت میں ہے کہ:

”ہم چودہ سو تھے۔“ (اے بخاری و مسلم نے روایت کیا)



فصل (۳۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِنْسَانٍ أَمْ جَنَّدَ عَلَىَّ الْمُصْحَّنَةِ فَمَا زَادَ فِي مِسْكِنِي

حدیث فی رؤیتِ الجنة و لذار فی صلوتِه

حضورِ ملی عزیزم کی بے مثل رؤیت اور نماز میں

### جنت و دزخ کے مشاہد کا بیان

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم  
قَالَ حَسَفَتِ الشَّرُّ عَلَىَّ عَمَدَ الْبَرِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى  
فَأَلَوْيَا يَارَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَوَّلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ  
شَوَّرَيْنَاكَ تَكَعَّبَتَ فَقَوَىَ اغْرَىَ رَأَيْتَ الْجَنَّةَ فَتَنَوَّلْتَ  
مِنْهَا عَنْقُودًا وَلَوْ أَخْذْتَهُ لَا كُلُّمُ مِنْهُ مَا لَقِيتَ الدُّنْيَا -

وَفِي رَوَايَةِ عَائِشَةَ

قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِكَ هَذَا كُلُّ شَيْءٍ وَعَدْتَهُ حَتَّى  
لَقَدْ رَأَيْتَهُ أَرْبِيدَاتَ أَخْذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ  
رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتَ الْقَدْمَ وَلَقَدْ رَأَيْتَ جَهَنَّمَ يَحْطُمُ بَعْضَهَا  
بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخِرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمَرَ  
بْنَ لَحْىٍ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَابِقَ - (رواہ البخاری)



عبداللہ بن عباسؓ فرماتے میں -

ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں سوچ گریں ہوا اور اپنے (اسوف کی) نماز پڑھانی۔ صحابہ نے نماز کے بعد عرض کی بیا رسول اللہ! مسلمان اللہ علیک وسلم ہم نے حضور کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پہنچ دی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر سچھے ہٹ گئے؟ حضور نے فرمایا! میں نے جنت کو دیکھا تو اس سے انگور کا ایک خوش نیک زیستیا تھا۔ اگر میں وہ خوشی لے لیتا تو تم اس کو قیامت تک کھاتے (اور وہ کم نہ تھا) روایتِ عائشہ میں ہے -

حضور نے فرمایا کہ اس جگہ پر میں نے وہ تمام چیزوں دیکھ لی ہیں جن کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔

تحتی کوئی نے جنت بھی دیکھ لی ہے۔ جب تم لوگوں نے مجھے آگئے بڑھتے دیکھا تھا تو اس وقت میں جنت میں سے انگوروں کا ایک خوشیا چا بتا تھا۔ اور جس وقت تم نے مجھے سچھے پہنچتے دیکھا اس وقت میں نے دوزخ دیکھی تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو کھانے جاتی ہے میں نے اس میں عمر بن الحی کو دیکھا جس نے سب سے پہلے ساندھ پھوڑنے کی رسم نکالی۔ (اسے بخاری نے وایت کیا) -



فصل (٢٤)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّا هُوَ إِلَّا بِكُمْ سَيِّدُ الْعِزَّةِ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى اللَّهِ تَصْحَّحُنَا فَهَذَا لِفَسْكِنِنَّ

فِي حَيَّنِ الْجَنَّعِ شَوْقًا إِلَيْهِ لِفِرَاقِهِ

حضرت اشیعیا بن ابی ذئب کے فاق میں بھور کے تنے کی

درد انگریزگریہ زاری کا بیان

عن جابر بن عبد الله

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ رَبِّنِي اللَّهُ مَوْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلَ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ  
فَاتَّ لِي عَلَامًا بَخَارًا - قَالَ إِنِّي شَتَّتُ قَلْ فَعَمَّلْتُ  
لَهُ الْمِنْبَرَ فَلِمَا كَانَ يَعْمَلُ الْجُمُعَةَ قَعَدَ إِلَيْهِ مَوْلَى اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ الْذِي مُنْبَعِضٌ فَصَاحَتِ الْمَخْلَةُ الَّتِي  
كَانَ يَخْطُبُ عَنْدَهَا حَتَّى كَادَتِ اثْنَتَيْنِ تَنْشَقُ فَزَلَّ  
الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَخْذَهَا فَعَنِمَّا إِلَيْهِ  
فَجَعَلَتْ تَأْتِيَ أَنْبَيْنِ الْقَبْيَ الْذِي مُنْبَعِضٌ يُسْكَنُ حَتَّى  
اسْتَفَرَتْ - قَالَ نَبَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الْذِكْرِ

وق بِداية

فَلِمَا مُنْبَعِضٌ لَهُ الْمِنْبَرَ فَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعَتِ الْأَنْتَ الْجَنَّعَ  
صَوْتًا كَصَوْتِ الْعَثَارَ حَتَّى جَاءَ إِلَيْهِ مَوْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَوْقَعَ يَدُهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ - (رداہ البخاری)

جاپ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ایک انصاری عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی : یا رسول اللہ ! کیا میں حضور کے لیے کوئی جیز بھینٹنے کو نہ بنزادوں ؟  
کیونکہ میرا غلام بُرھی (رنگار) ہے آپ نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو بنزادوں  
اں عورت نے آپکے لیے منزرا دیا۔

جمعہ کا دن آیا تو حضور اسی منبر پر تشریف فرماء ہوئے۔

جوتیار کیا کیا تھا لیکن (حضرت) کے منبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے کچھ  
کا دہستون جس سے میک لگا کر حضور پڑھا کرتے تھے چلا پڑا یہاں تک  
کہ بھینٹ کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضور منبر سے اترے اور ستون کو  
حکلے لکھا۔ ستون اس پیچ کی طرح رو نے لکھا، جسے تھکی دے کر جنپ کرایا جاتا  
ہے۔ جب وہ ستون خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا بستون اس وجہ سے  
رو پڑا کہ جو ذکر یہ سنائکتا تھا مدار اس سے مودم ہو گیا।

دوسری روایت میں ہے۔

مسجد میں حضور کے لیے منبر تیار کرایا گیا اور آپ اس پر تشریف فرماء ہوئے  
تو اس (معارقت) کی وجہ سے ستون دس ماہ کا بھن اوتی کی آواز کی طرح  
چلا نے لگا ہم نے اس کی آواز سُنی حتیٰ کہ حضور اس کے پاس نظریں لائے  
وستِ افس اس پر رکھا تیک کی آواز بند ہوئی۔ (اسے بخاری نے روایت کیا)۔



فصل (٣٨)

داللہمَّ اعْلَمُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الْأَئْمَاءِ وَلَا تُنَزِّلْهُ

حَدِيثَ تَسْلِيمِ الشَّجَرِ وَالْحَجَرِ عَلَيْهِ وَالسَّجْدَةِ

حضرتو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچیروں اور درتوں کے

### سلام اور سجدہ کرنے کا بیان

عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

قالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَتَّةَ خُورَجَةَ  
فِي بَعْضِ نَوَّاحِهَا فَمَا أَسْتَعْبَلَهُ جَبَّاً وَلَا شَجَرَّاً  
إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِ

رَوَايَةُ أَبِي مُوسَىٰ

قالَ الرَّاهِبُ وَهُوَ أَخْذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْثَامَ  
مَعَ عَمَّهُ أَبِي طَالِبٍ هُذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ هُذَا رَسُولُ  
رَبِّ الْعَالَمِينَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَقَالَ  
لَهُ أَشِيَّخُ حَمْزَةَ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عِلِّمْتَ فَقَالَ أَنْتُمْ  
حَيْثَ أَشْرَقْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمَرِيقَ شَجَرٍ وَلَا  
حَجَرٍ إِلَّا خَرَسَ أَجْدَأَ وَلَا سِجَدَاتٍ إِلَّا تَبَعَّتْ  
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الترمذی)

حضرت علی ابی طالب صَنِی اللہ عَنْہ فَرَاتَے ہیں میں ایک مرتبہ بھی اکو م  
صلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے ساتھ ملکہ منظہر میں تھا ہم دونوں ملکہ کے بعض اطراف  
میں گئے راستے میں کوئی پہلا اور درخت الیسا نہ تھا جو یہ نہ کہتا ہو۔

«اسلام علیک یا رسول اللہ»

ایو موئی اشری کی روایت میں ہے۔

(جب حضور اپنے چچا ابی طالبؑ کے ساتھ شام کو تشریف لے گئے تو  
(بھیرہ نامی) را ہبہ نے حضور کا دست اندس پھردا کر کہا۔)

یہ تمام جہاڑی کے سردار ہیں ہر تمام جہاڑی کے پروردگار کے ہوں  
یہ انہیں اللہ تعالیٰ تمام جہاڑی کے یہے رحمت بنائیں مجبوب ثفرمائے گا۔  
اس راہب سے قریش کے سرداروں نے کہا۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟  
راہب نے کہا۔ جس وقت تم لوگوں نے عقبہ سے بھانگا ہے (یعنی وہاں  
سے پہنچے ہوا تو کوئی درخت اور کوئی پھر ایسا نہیں تھا جو ان کے سامنے سجدہ  
میں نہ مگردا ہو۔ اور یہ (یعنی درخت اور پھر اس لئے بھی کسی کو سجدہ میں  
کرتے۔ (اسے ترمذی سے روایت کیا)۔



فصل (٣٩)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ حَرِّكْنِي عَلَىٰ سَبِيلِ مَنْ أَنْهَا مُوْلَاهُ وَعَلَىٰ الْمُصْبِحِينَ هَذَا لِفَسْطَلِي

فِي كَوْنِ حَبْتِ الرَّسُولَ أَصْلَلَ الْإِيمَانَ

حضر مسیح ایم کی محبت کے حصل ایمان ہونے کا بیان

عَنْ أَنْسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَّقِيَّاً قِيَامًا  
السَّاعَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ  
فَلَمَّا قَضَى صَلَاةَ اللَّهِ قَالَ أَيُّنَّ السَّائِلُ عَنْ  
قِيَامِ السَّابِعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
قَالَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا بَكِيرَ صَلَاةً وَلَا صَوْمَالَ إِلَّا  
أَعْدَدْتَ لَهَا كِبِيرَ صَلَاةً وَلَا صَوْمَالَ إِلَّا  
أُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَنْ أَحَبَّتْ وَأَمْتَ  
مَعَهُ مَنْ أَجْبَيْتَ فَمَا رَأَيْتُ فِرَاجَ الْمُسْلِمِينَ  
بَعْدَ إِلَاسْلَامٍ فَنَحْمُرُ بِهَا۔ (رواہ الزہدی)

انہ فرماتے ہیں۔

کہ ایک شخص حضر کی خدمت میں ہاڑھو اور پچھا یا رسول اللہ قیامت کی

وائق ہوگی۔ حضور نماز کے لیے اٹھے (اور نماز پڑھائی) نماز سے فراغت کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا : وقوع قیامت کے باعث میں سوال کرنے والا کہاں ہے۔ اس شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں ہوں۔

حضرت نے فرمایا۔ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے رعنی کیا اعمال ترے پاس ہیں اس شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ! صلی اللہ علیہ وسلم نماز روزہ کا کوئی زیادہ عمل میرے پاس نہیں ہے۔ مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ ستو حضور نے فرمایا۔ ہر شخص اپنے محبوس کے ساتھ ہو گا۔ پس تو بھی (روز قیامت) اسی کے ساتھ ہو گا جس سے بچھتے محبت ہے (لیعنی بچھتے میری ممیت درافت حال ہو گی) (لئے ترمذی نے روایت کیا)۔



وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا إِنَّ  
أَحَبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَهُ مَنْ أَجْبَتَ  
قَالَ أَنْتَ فَمَارَ أَيْتَ الْمُلْكَيْتُ فَرِحُوا بِسَيِّفٍ  
بَعْدَ إِلَّا سَلَامٌ فَرَحْمَةٌ بِهَا۔ (تفہم علیہ)

(حضرت انس بن مالک ہیں) میں نے مسلمانوں کو قبولِ اسلام کے بعد کبھی بھی اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ وہ حضور کے اس ارشاد پر ہوتے۔



فصل (۴۰)

لِذَانَ اللَّهِ بِحُكْمِهِ حَسِنَتْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الَّذِينَ وَصَحَّبَهُ وَمَارِزَهُ وَسَلِّمْ

حَدِيثُ فِي ذَمِّهِ مَنْ يَطْعُنُ فِي شَانِ النَّبِيِّ وَعَلَامَاتُهُ

حضرت اشیعہؑ کی شان میں طعن کر زوالوں کی

مدحہت اور ان کی علامات کا بیان

عن أبي سعيد (رضي الله تعالى عنه)

قالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ كِبَاءَ عَبْدَ اللَّهِ  
ذُو الْخَعَيْرَةِ الْمَيْمَنِيَّةِ فَقَالَ إِعْدِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ  
قَالَ وَيَلَكَ وَمِنْ يَمْدُلُ إِذَا لَمْ يَأْدُلْ قَالَ  
عَمِّرْتُ الْخَطَابَ إِذْنَتْ لِي فَاضْرِبْ عَنْقَهِ  
قَالَ دَعْهُ فَاتَّ لَهُ أَخْمَابًا يَحْقِرُهُ حَدَّ صَلَاتَهُ  
مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صَيَامِهِمْ يَمْرُقُ فِي  
مِنَ الْدِيَنِ كَمَا يَمْرُقُ الشَّهْرُ مِنَ الشَّمَاءِ  
يَنْظَرُ فَقْدٌ فَلَا يُجْدُ فِيهِ شَيْءٌ شَوَّمِنْظَرُ  
فِي الْضَّلَالِ لَا يُجْدُ فِيهِ شَيْءٌ شَوَّمِنْظَرُ فِي صَافِهِ  
فَلَا يُجْدُ فِيهِ شَيْءٌ شَوَّمِنْظَرُ فِي نَضِيَّهِ فَلَا يُجْدُ  
فِيهِ شَيْءٌ شَوَّمِنْظَرُ قَدْ سَبَقَ الْغَرْثَ وَالْدَّمَ -

حضرت ابوسعید خدی فرماتے ہیں۔

حضرت مال غنیمت تقیم فراہیتے تھے کہ جب اللہ نوا المولیہ تمیز آیا اور کبھی  
کھایا رسول اللہ! انصاف سے تقیم کیجئے ماس کے اس طعن پر حضور  
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بخت اگر میں انصاف نہیں کرتا تو اور کون  
کو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عوف نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اجازت عطا  
فریبیتے۔ میں اس کی گردان اڑادوں۔ فرمایا رہتے دو۔ اس کے کچھ ساتھی  
ایسے ہیں (یا ہوں گے) اک ان کی نمازوں اور ان کے روزوں کے  
 مقابلہ میں تم اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کو حیری جائز گے۔ لیکن وہ  
لگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تبریز نہ سے  
پرانکل جاتا ہے۔ (تیر پھیکنے کے بعد) تیر کے پر کو دیکھا جاتے گا تو  
اس میں خون کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ تیر کے پھل کو دیکھا جائے گا تو  
اس میں بھی خون کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ تیر کی باڑ کو دیکھا جاتے گا تو اس  
میں بھی خون کا کوئی نشان نہ ہوگا، اور تیر (جانور کے) گوبہ اور خون  
سے پرانکل جائے گا۔



وَ فِي رَوَايَةِ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كَنَّا  
لَهُنَّ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هُنَّ لَا قَالَ فَبِلَعَ ذَلِكَ  
البَحْثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَأْتِي مَنْفَعَةَ  
وَأَنَا أَمْلِيُّ مَنْ فِي الْمَلَكَ يَا تَمِّنْ خَبْرَ الْمَسَاءِ  
مَسَاءً حَادَّ مَسَاءً قَلَّ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ  
مُشْرِفٌ أَوْ جُنْكِيْنِ نَا شِرْزَالْجِبْهَةِ كَثُرَ الْعَيْمَةِ

مَحْلُوقُ السَّارِمُ شَمِّنَ الْإِنْدَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ قَالَ وَيَكُنْ أَوْ لَسْتَ احْتَاجُ إِلَّا  
 إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ يَقِنُّ اللَّهُ قَالَ شَوَّافُ الْمَرْجُلِ قَالَ  
 خَالِدُ بْنُ الْأَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَصْرِبُ  
 عَنْكَ قَالَ لَا لَعْلَهُ أَنْ يَكُونَ يَصْلَى فَقَالَ خَالِدُ  
 وَكُونْمَنْ مُصْلِلٌ يَقُولُ بِلْ سَانِهِ مَا لَبَبَ فِي  
 قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنِّي لَمْ أَوْسَطْ أَنَّ الْقَبَّ  
 عَنْ قَوْبَةِ النَّاسِ وَلَا أَشْفَقَ لِجُوْنَهُ فَقَالَ  
 شَمَّرُ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقْفَفٌ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ  
 ضَيْضَئِ هَذَا قَعْدَمْ يَتَلَوَّنَ كِبَابَ اللَّهِ مِرْطَبًا  
 لَا يَحْاَنُ حَنَّا جَرَهُمْ يَمِرُّ قَوْنَدَ مِنَ الدِّينِ كَمَا  
 يَمِرُّ السَّهْرَمَتِ الرَّمَيْتَهِ وَأَطْلَنَهُ قَالَ  
 لَكُنْ أَنَّكَ تُهْمِرُ لَا قَتْلَنَهُمْ قَتْلَ شَمُودَ.

(ستفتی عليه)

اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے یہی مردی ہے کہ ایک صحابی کہنے لگا کہ تم آس کے (الیعنی مال) زیادہ مستحق ہتھے جب حضور کریم الصلوٰح پسچری تو فرمایا کیا تم لوگ مجھے امامتدار نہیں سمجھتے حالانکہ میں اس خدا کا امین ہوں جو آسماؤں میں ہے۔ پیرے پاک منجع شام آسماؤں کی خبریں آتی ہیں یہ سننکر ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں گز ہوں میں دھنسی (یا گمسی) ہوتی نہیں۔ رخاروں کی بڈیاں نکلی (یا ۱ بھری) ہرتی تھیں۔ پیشانی اُبھری ہوتی۔ دار محسی لگتی اور سر منڈا ہوا تھا۔ اور تبند (چادر) گھنول سے اپنی

ہر نے تھا (حضرت کے اس ارشاد پر کہ میرے پاس صبح و شام آسازن کی خبریں آتی ہیں۔ یعنی حضور کے کثرت علم و اطلاع پر امراض کرتے ہوئے) کہنے لگا۔

یا رسول اللہؐ خدا سے خوف کیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بت کیا میں تمام سوئے زمین پر رہنے والوں سے زیادہ خوف خدا کا اہل نہیں ہوں۔ پھر وہ شخص پشت پھر کر چل دیا۔ خالد بن ولید نے عرض کیا! یا رسول اللہؐ کیا میں اس کو قتل کر دوں۔ فرمایا نہیں۔ یہونکہ ممکن ہے یہ نماز پڑھتا ہو۔ حضرت خالد نے عرض کیا بہت سے نمازی زبان توار نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ نہیں بتتا۔ فرمایا مجھے یہ جم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دل چر کر بایپٹ پھار کو دیکھوں۔ پھر اس شخص کی پشت کی طرف دیکھ کر فرمایا اس شخص کی قتل سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو بہت زدے نے کر رکھی سردار کے ساتھ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے عنان سے آگے نہیں بڑھے گا (یعنی دل میں نہیں اُترے گا ایسے لوگ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیرش نے سے پار ہو جاتا ہے (رادی کہتا ہے) مجھے گھان بے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا اگر میں ان کو پاروں تو قوم شود کی طرح انہیں قتل کر دوں۔ (السخواری و مکہنے و دایت کیا)۔



## باب دوازدھم

حضرت ملک اشرف علیہ السلام کی شانِ اقدس میں  
بعض عشاق کا لعنتیہ بیان



حضرت حسان بن ثابتؑ میں اقتضیا

## دیوان حسان

مَحْبُوتُ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعَنْدَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْجَنَاءِ  
تو نے رسولِ یہم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں نازیبا الفاظ استعمال کئے  
تو میں نے ان کا جواب دیا۔ اس جواب کا روای اور خدمت کی جزا اللہ تعالیٰ  
ہی کے پاس ہے، وہی اس کی چیز اوصیہ ہے گا۔

أَتَهْجُو وَكُسْتُ لَهُ بِكَفٍْ فَشَرِكْ كَمَ الْحَيْرِ كَمَا الْفِرَادِ  
کیا تو اس عظیم المرتبت سنتی کی شان میں گستاخی کرتا ہے جن کے سامنے<sup>۱</sup>  
تیری کوئی حیثیت ہی نہیں اور تو ان کا ہم پڑھنیں؟ میں دعا کرتا ہوں کہ  
جو شرک ہے وہ اس پر فدا اور قربان ہو جائے جو سراپا خیروں کرتا ہے  
هَجَّقْتَ مُبَانِكًا بَذَلَ حَنِيفًا أَمِينَ اللَّهِ شِيمَةَ الْوَفَاءِ  
تو نے اس شخص کے بارے میں ناپسندیدہ اشعار کہے میں جو بکتِ محبت  
نیکو کار، راست باز، حق پسند اور اسرکے امین ہیں، خوبے دفا ان کی طبع  
ہایلوں میں رچیا ہی ہے۔

فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَسَمِدَ حَمَهُ وَيَنْصُرُ سَمَاءُ  
ایک شخص اندھ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طلب اللسان اور  
ان کی بحث و ستابش میں معروف ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے دوسرا طرف  
ایک شخص ہے جو بیکوئی میں معروف ہے اور ہر زہ سر ای کر رہا ہے کیا یہ  
دلف بابر ہو سکتے ہیں؟

فَإِنَّ أَبِي وَاللَّدِيْنَتْ وَعَرْضِيْنَ لِعَرْضِيْنِ مُحَمَّدَ مِنْكُمْ وَقَاتَهُ  
مِيرِی خواہش ہے کہ میری عزت اور میرے ماں باپ سب نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم کی عزت پر قربان ہو جائیں۔  
وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَكُمْ تِرْقَطُ عَيْنِيْنِ وَأَجْحَمَ مِنْكَ لَكُمْ تَلِيْدُ النَّسَاءِ  
آپ سے زیادہ حسین کی آنکھے دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ خوبصورت  
کسی ماں نے جانا ہی نہیں۔

خَاتَمَ مُبَرَّةً إِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانَتْ فَدْخُلَتْ كَانَتْ  
آپ بہ عیب سے پاک پیدا کرنے کے ہیں گیا آپ کو آپ ہی کی حسب بنت  
پیدا کیا گیا ہے۔

أَغْرِيْتُهُ لِلنَّبُوْتِ خَاتَمٌ مِنَ الْلَّهِ مَسْهُودٌ يَلْقَوْهُ وَيَشْهُدُ  
آپ کی مبارک پیشی زورش ہے اور اسرار تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دنخان  
پُر ختم پرست عطا ہوئی ہے جو آپ کی صفات کی گواہی شے رہی ہے  
وَضَمَ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا أَفَأَلَ فِي الْخَمْسِ الْمَعْدُونَ أَشْهَدُ  
انہ تعالیٰ نے اپنے اسم پاک کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا ہے کیونکہ  
موزن پانچ وقت اشہد کہ کراس حقیقت بکری کی گواہی دیتا ہے۔  
فَشَقَ لَهُ مِنْ اسْتِسْمِهِ لِيُحْلَلُهُ فَدُولُ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُجَدٌ  
ادعا سے اپنے ہی نام سے ان کا نام شتر کیا ہے تاکہ ان کی جلالت  
شان کو واضح فرمادے۔ چنانچہ عرشِ دالاً محمود ہے اور یہ ”محمد“ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔  
فَأَمْسَى سَرَاجًا مُسْتَبِرًا وَهَادِيًّا يَلْقَوْهُ كَالْأَخْصَاصِ قَيْلُ الْمَنَدِ  
چنانچہ وہ ہادی اور زورش سرزع ہیں اور صیقل شد وہندی تلوار کی طرح دنخان ہیں۔

وَأَنْذَرَنَا نَارًا وَنَتْوِيجَةً وَعَلَمَنَا الْإِسْلَامَ فَاللَّهُ تَحْمَدُ  
انہوں نے ہمیں اگلے سے ٹولیا اور جنت کی تشارت دی اور اسلامی تعیات  
سے آگاہ فرمایا۔ اس عطاۓ خاص پر ہم اشتر کی حمد بیان کرتے ہیں۔  
**فَيَسَّرَ الرَّسُولُ وَفَيَسَّرَ الْحَقِّ تَبَعُّدُهُ حَتَّى الْمَمَاتِ وَنَصَرَ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ**  
رسول ہمیں ہم میں موجود ہیں اور حقیقی ہم میں ہے جس کی دلیل والپیں تک  
ہم پیرودی کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ختم نہ ہونے والی اشتر کی مدد بھی  
ہم حاصل ہے۔

**مَبَارِكُ كُنْسِيَّا إِلَيْهِ صُورَتُهُ مَا قَالَ كَانَ قَضَاءَ عَنِّيْرِهِ دُرُودُ**  
سرچشمہ برکات ہیں اور چودہ سویں کے چاند کی طرح حسین و خولیبورت ہیں۔  
جربات کہہ دیں وہ قضا در و قدر کافی صدر بن جاتی ہے جسے طالا نہیں جاسکتا۔  
**لَقَدْ خَابَ قَوْمٌ عَابِ عَنْهُمْ بِيَهُمْ وَهُدُسَ مِنْ يَسِّرِي الْيَهُمْ وَيَقْتَدِي**  
جس قوم کے بنی انهیں چھوڑ کر دوسرا یہ جگہ چلنے کے وہ قوم خائب و غاسر  
اور نامراد ہو گئی اور صبح دشام سفر کر کے جس قوم کے پاس گئے وہ سرخرو  
اور بامرا و اور قابل تحکیم ہو گئی۔

**نَسْجِيْرَهَا مَا الْأَيْرَى النَّاسُ كُحُلُهُ وَيَشْلُوكَاتُ الْمَلَهِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ**  
ان کے گرد و پیش یعنی سوئے لوگ جو کچھ نہیں دیکھ سکتے بنی وہ بلا لکھ  
دیکھتے ہیں اور سرچشمہ میں اشتر کی تکلب کی تلاوت کرتے ہیں  
**وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمِ مَقْتَلَ اللَّهِ عَائِبٌ فَصَدِّدْنَاهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضَحْيِ الْفَدِ**  
اور اگر وہ کسی دن غیب کی بات کہہ دیں تو آج یا کل ہی اس کی تصدیق  
سچاتی ہے۔

فَبَعْرَكَتْ يَا قَبَّةِ الرَّسُولِ وَبَعْرَكَتْ مَلَكَةُ قَبَّةِ الرَّشِيدِ الْمَسْدَدُ  
 لَهُ رَسُولٌ أَنْذَرَ كِفْرًا قَبْرِيٍّ بَارِكَتْ هُنَّهُ اُرْدَهُ شَهْرٌ قَدْسٌ بَحْرِيٌّ حَسْبٌ مَّيْنَ  
 بَرِّيٌّ يَا فَتَهُ اُورْكِيٌّ هَرِيٌّ رَاهَ كِيٌّ طَرْفَ دَعْوَتْ يَنْهَى دَانِيٌّ اُكْرِمْقِيمْ هَرِكَتْ هَيْنَ  
 وَبُورِكَتْ لَهُدْمِنْكَ صَمْنَ طَيْبَّا عَلَيْهِ بَنَاءُ مَنْ صَيْفَحَ مَنْضَدُ  
 اُورْتِيرِيٌّ لَهُدْمِيٌّ لَكْتِيٌّ بَارِكَتْ هَيْ بَهْ جَسْ نَسَبَ سَهْ پَاكَ سَتِيٌّ كَوْ اَپِنِي  
 آغْوَشَ مَيْنَ لَيْا هَيْ اُورْاسَ پَرْ تَرِيْبَ وَارْسَلِيْنَ چَنْ دَگُّيٌّ هَيْنَ.  
 وَهَلْ عَدَلَتْ يَوْمًا زَيْهَهَا لَالِّا بِ رَذْنِيَّهَ يَوْمَ مَاتِهِ مُحَمَّدَ  
 جَسْ دَنْ حَضُورِ مَصْلِيٌّ اَنْذَرَ عَلِيٌّ وَلَمْ اَسْ دَنِيَّا سَهْ تَشْرِيفَ لَهْ اَسْ دَنَ کَی  
 مَصِيْبَتَ کَے بَارَکَسِیٌّ اُورْ دَنَ کَی مَصِيْبَتَ هَنِيْنَ هَرِسَكَتِيٌّ هَيْ جَسْ مَيْنَ کَوْنِي  
 شَخْصَ اَسْ دَنِيَّا سَهْ تَخْصِتَ هَوْ گِيَا هَوْ.

تَقْطَعَ فَيْتِهِ مُنْزِلُ التَّحْجِيْعَهُمْ وَقَدْ كَانَ ذَانُوْرِيْعُهُ وَكِيْجَدُ  
 اَسْ دَنْ هَبِطَ وَجِي وَسِكِيْنَهُ اَنَّ سَهْ جَداً هَرِگَنَهُ حَالَكَنْ لَشِيبَ وَفَرَازَ اَنَّ کَے  
 نُورَ سَهْ دَنْشَانَ تَهْ.

يَدْلِيْلُ عَلَى الرَّحْمَنِ مَنْ يَقْتَدِيْيَاهُ وَسِقْدَمْنَ هَوْلِ الحَزَابَا وَيُرِيشِدُ  
 جَوَانَ کَيْ پِيرِدِيٌّ کَرِتَاعَادَهَ اَسْ رَهَانَ کَارَاسَتَ دَكَهَاتَ تَهْ اُورْ رَسَايَهَ  
 کَرِخَطَرَهَ سَهْ بَجاَتَ اُورْ سِيدَهَارَاستَ دَكَهَاتَ تَهْ.

وَمَسْجِدُهُ فَالْمُؤْجَسَاتُ لِفَقَدِهِ خَلَالَهُ فَيْتِهِ مَقَامُ وَمَسْعَدُ  
 آپَ کَی مَسْجِدُهُ اَسْ کَی سَارِيٌّ فَضَا اُورْ جَنْ جَمْگُونَ پَرْ آپَ اَلْتَهَيْ بَلْتَهَيْ تَهْ  
 وَهَسَبَ آپَ کَی جَدَانِيَّهُ مَيْنَ وَرِيانَ اُورْ سَنَانَ پُرِيَّهُ مَيْنَ اَسْرَوْحَشَنَهُ مَيْنَ  
 وَبِالْجَمْرَةِ الْكَبِيرِيَّهَ لَهُمْ اَوْحَشَتُ دِيَارُ وَعَرَصَاتُ دَرِيعَهُ وَعَوْلَهُ  
 اَسِي طَرَحَ حَجَرُهُ کَبِيرِيَّهُ تَهَامَ سِيرَانَ، مَقَامُهُ لَلَّادُتَ اُورْ گَھَرِيَّهُ اَدَاسَهُ مَيْنَ.

فَتَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يَا عَيْنَ عَيْنَةَ وَلَا أَغْرِفْنِي الْدَّهْرَ حَمَعَلِي بَجَدَ  
پس لے آنکھ! اب افسر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں خوب آنسو بہا  
اور میں نہیں سمجھتا کہ اب کبھی یہ آنسو تم بھی سکیں گے۔

وَمَا لَكَ لَا تَسْكِنَ ذَالنَّعْمَةَ الْتَّى عَلَى النَّاسِ مِنْهَا سَابَغَ تَسْقَدُ  
اد تو اس نعمت عظیٰ پر کیوں نہیں رو قت ہے جس نے اپنی دعوت کے  
دامن میں لوگوں کو چھاپا یا سوانحہ اور مکمل طور پر ڈھانما سو اعاضا۔

فِجُودِي عَلَيْنِهِ بِالْمَوْعِ وَأَعْوَلِي لَفَقِدَ الْذِي لَامْتَلَهُ الدَّهْرُ يُوجَدُ  
پس اس لاثانی محبوب کی جدائی میں خوب آنسو بہا اور خوب کریہ دزاری کر  
جس کا مثل کبھی بھی وجود میں نہیں آسکے گا۔

وَمَا فَقَدَ الْمَاضِونَ مِثْلُ مُحَمَّدٍ وَلَا مَسْلَهُ حَتَّى الْقِيَامَةِ يُفْقَدُ  
اور گذشتہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کسی کو مفقود نہیں پایا اور  
نہی قیامت تک کوئی ایسا مفقود پایا جائے گا۔

مَا بَالِ عَيْنَكَ لَا تَأْتِي أَمْ كَائِنًا كُحِلَتْ مَا قِيمَهَا بِكُحْلِ الْأَرْمَدِ  
تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ سو نہیں رہی ہیں جیسے ان کے گوشوں  
میں آشوب حیثم کا سرمہ لگادا گیا ہو۔

جَزَعًا عَلَى الْهَدِيِّ أَصْبَحَ ثَاوِيَا يَا حَيْرَتَ مَنْ وَطَئَ الْحَصَى لَا تَبَدُّلِ  
یہے خواہی اس بے قراری اور گھر اہمیت کی وجہ سے ہے جو مہابت یافتہ سی  
مکرم کے تشریف لے جانے اور قبیلہ مبارک میں مقیم ہونے سے پیدا ہوئی ہے۔  
لے میرے محبوب! آپ ریگ زاروں پر چلنے والوں میں سب سے افضل اہم  
ہمتری ہیں خدا کرے آپ کبھی ہم سے جدا اور دور نہ ہوں۔

وَسُجْنِيْ حَقِّكَ التَّرْبَهُ لَهُنِيْ لَيْتَنِيْ      غَيْبَتُ قَلْكَ فِي بَقِيَّعِ الْغَرَقَدِ  
لے کاش: میں آپ ہے پھٹے سی مدنیت نونہ کے قبرستان میں سپرد  
خاک کر دیا جاتا: بے شک میرا چہرو خاک آؤ دہ جانا مگر آپ اس سے  
محفوظ رہتے۔

يَا إِنَّ وَاحِدَيْ مَنْ شَهَدَتُ وَفَاتَهُ      فِيْ كَيْمِ الْإِلَاثَيْنِ الشَّبِيْيِ الْمَهَيْدِي  
جوہریت یافتہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر یہاں سے رخصت ہوتے ان  
پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں ان کے دصال شریف کے وقت  
حاضر تھا۔

فَظَلَّلَتُ بَعْدَ وَفَاتَهِ مَتَبَلَّدًا      مُتَلَّدَدًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُولَدِ  
پس میں ان کی وفات کے بعد حیران و ششندڑہ گیا۔ لے کاش: میری بل  
نے مجھے جنمی نہ ہوتا۔

أَقَيْمَ بَعْدَكَ بِالْمَدِيْنَةِ بَيْنَهُمْ      يَا لَيْتَنِي صَبَحْتُ سَعَمُ الْكَسُودِ  
کیا میں اب آپ کے بعد مدینہ طیبہ میں رہیں گا؟ لے کاش: مجھے کلمے  
سانپ کا نہ ہلا دیا جائے۔

أَوْحَلَ أَمْرُ اللهِ فِيْسَنَا عَاجِلًا      فِيْ دَوْحَةٍ مِنْ يَوْمِنَا أَوْ فِي عَدِ  
آج شام یا کل صبح انہ کا حکم ہمارے بارے میں حلہ ہی سے نازل ہو جائے  
(یعنی موت آجائے)

فَقَعْ سَاعَتْنَا افْلَقَ طَيْبَيَا      مُحَصَّنًا فِيْ إِيمَانِ الْحَتِيدِ  
پس ہماری قیامت قام ہو جائے اور مم اس بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات  
کر لیں جو کریم الاصل، نیکہ مرشد اور طیب و طاہر ہیں۔

يَا إِكْرَامَنَةَ الْمُبَارَكِ بِكُهَّا وَلَدُنَّهُ مُحْمَنَةَ بَسْعَدِ الْأَسْعَدِ  
إِنَّ حَرَضَتْ أَمْمَةَ خَالقَوْنَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَخَلِيمِ الْبَكْتِ صَاحِبِزَادَےِ جِنْ كَوْ  
اسِ پَاکِ بازِ سَتِیْ نَے سَعِیدِ تَرِینِ سَاعِتِ مِنْ حَنْمِ دِیاَ ہے۔

نَعَمْ أَصَاءَ عَلَى الْأَبَرَيَةِ كِلَهَا مَنْ يَهَدِ لِلنَّوْنَ الْمُلْتَادَلَتَ يَهَنِدِی  
اِیکِ یَلَےِ نُورِ کو تَحْمِمْ دِیاَ ہے جِنْ نَے سَارِیِ کَانَسَاتِ کُورُو شَنْ کَوْ دِیاَ ہے۔ وہ  
شَخْصِ یَقِنَا ہَدِیَتِ پَانِےِ مِنْ کَامِیَابِ ہِرْ جَاتِ ہے جَسَے اِسِ نُورِ تَکِ رَسَانِی  
عَطَا کَرْ دِی جَانَے۔

يَا رَبِّ فَاجْمَعْتَ أَهْعَمَّا وَبِكِيْتَنَا فِي جَنَّتِهِ شَتِّيْ عَيْنَوْنَ الْحَسَدِ  
يَا اللَّهُ! هَمِينْ ہَمَارَے نَبِيِّ کَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَسَاطِهِ جَبَتِ مِنْ جَمِيعِ فَرَا  
دِیے جِنْ سَے حَاسِدِوں کَیْ رَنْجِيْخِیْرِ ہُوْ جَامِیْنِ۔  
فِي جَنَّتَةِ الْفِرَدَوْسِ فَاكِبَهَا لَنَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَذَا الْعَلَا وَالسُّودَ  
اِنَّهِ جَلَالُتِ دِسَادِتِ اَوْ عَلُوْدِ اِرتِقاَکِ مَالِکِ جَبَتِ الْفِرَدَوْسِ جَمَائِے  
مَقْدَرِ مِنْ لَکِھُوْ دِے اَوْ اَسِ مِنْ سَبِ کَوْ اَکْھُوا کَرْ دِتَ۔

وَاللَّهُ أَسْمَعَ مَا بَقِيَتْ بِهَا لَكَ الْأَبَيَّتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اِشْرِکِ کِیْ قَسْمِ اِحْضُورِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کِیْ جَدَانِی مِنْ اَبِ یَهِ حَالَتِ ہُوْ گُنِی ہے کَمْ  
جَبْ بَھِی کَسِیْ کَے فَوْتِ ہَرْ نَے کَنْجِرْ شَنَّا ہُوْں توْ مجَھے پَانِےِ پَیَارَے نَبِيِّ  
يَا آجَاتِے ہِیں اُورِ مِنْ بَے سَاختِ رُوْپِ تَامِوْں جَبْ تَکِ نَنْگُ ہے اَبِ  
یَکِیْ کِیْفِیْتِ رَہِے گِی۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَحْفُظْ بِعِرْشِهِ وَالظَّبِيْونُ عَلَى الْمَبَارِكِ اَحَدٌ  
کَرِيمِ وَمَبَارِكِ نَبِيِّ حَصْنُورِ اَحَدِ بَعْجَبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کِیْ ذَاتِ اَقْدَسِ پَرَاقْرَعَالِیِّ  
اِپِنِیِّ رَجْتَنِیِّ نَازِلِ فَرَمَائِے اَوْ جَوْفِرْ شَتِّيْ عَرْشِ بَرِیِّ کُوْ گَھِیرَے ہُوْنَے ہِیں اَوْ  
پَاکِ بَازِ بَندَے سَبِ انِ پَرِ دِلْعَوْ نَجِیْمِ اَوْ صَلَّوَةِ وَسَلَامَ کَنْ نَدَانِیْ پَیْشِ کِیْنِ۔

امام شرفُ الدین محمد بوصیری رحمۃ اللہ علیہ

## قصیدہ برہ شریف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَمِنَ تَدْكِيْجَيْدَانَ بِهِدَتِنِ سَيِّدِ  
کیا تو نے مقامِ ذی کلام کے ہسالیوں کی یاد میں آنسوں کو جو تیری اگکے جاری ہیں خون سے بلایا ہے ؟  
اَمَّهَبَتِ الرِّزْنَهُ مِنْ تَلْقَاهُ كَاظِمَهُ ؛ اَذَا وَمَضَ الْقَنْقَفُ فِي الظَّلَّاءِ مِنْ لَهَمْ  
یام وضع کاظم کی طرف سے ہوا پل - ہی ہے یا شب تاریک میں کوہ اضم سے بجلی چکد ہی ہے ؟  
فَالْعَيْنِيَكَ إِنْ غَلَّ أَلْقَنَا مَسْنَاتِا وَمَالِقَلِيلِكَ لَانْ غَلَّ أَشْفَقَ لَهَمْ  
پس اگر نہیں تو تیری اگکوں کو کیا مرگیا اگر تو انہیں کہتا ہے کہ تم جاذب تو وہ اور بھی زیادہ بینے گئی ہیں اور  
تیر سے دل پر کونسی آفت آن پڑی کہ اگر تو نے کہے سنبھل جاتا تو اس کی سریگی اور بڑھ جاتی ہے ؟  
لَهَبَتِ الصَّبَبُ أَنَّ الصَّبَبُ مُنْكَثِرُهُ مَابِينَ مُنْسَجِمِ مِنْدُ وَمُضْطَبِ هَر  
کیا عاشق یخاں کر سکتا ہے کہ ای محبت اس کے اشک دل اور دل بیان کے بینے ہوئے چھپ سکیا گا، گریزی پر  
لَوْلَا الْهُوَى لَغَثَيْفُ دَمَّاعِلَ طَلَلِ ڈلا آنقتَلِنِيَكَ الْبَانَ وَالْعَالَمَ  
اگر مجھے کسی کی محبت نہ ہوتی تو کہندرات پر کیوں انہما اور درخت بان اور کوہ ہم کی یاد میں کیوں لتوں جائیا ؟  
نَكِيْفَتْ شَنَكِرُ حَتَّا بَعْدَ مَا تَبَهَّرَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمَعِ وَالسَّقَمِ  
بعد اس کے دو عادل گواہ آنسو اور بیماری، تیرے عشق پر شہادت نے بھی ہیں تو کس طرح عشق سے انکار کر سکتا ہے ؟  
وَأَقْبَتْ الْوَجْدُ عَقْلِيْ عَرَقَهُ وَضَنَّى بِمَثِ الْبَهَارِ عَلَى خَدَيْنِكَ وَالْعَمَّ  
اور تو عشق سے کس طرح انکار کر سکتا ہے جب غم نے تیرے دخادری پر دو نشان  
آنسو اور لاغری کے مثل گلاب زرد اور درخت غز کشم نیاں کر رہے ہیں ؟

نَعْمَ سَرِي طَيْفٌ مَنْ أَهْوَى فَأَرْقَى  
وَالْتُّبُّ يَعْرِضُ اللَّادِي بِالْأَكْمَ  
ہاں! تاگہی رات کو مشوق کا خیال میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بے خواب کر دیا۔  
وَالْمُجْتَبَ لِذَاتِ زَنْدَگِ لَوْغَمْ سَفْنَ بَكْرِيَتِي ہے یا ان میں مائل ہو جاتی ہے  
بِالْأَكْمَ فِي الْهَوَى الْعَذْدَى مَغْيَدَةٌ فَمَنِيَ إِلَيْكَ وَلَوْأَنْصَفْتَ لَكَ شَبَّهُ

لے میرے سر نش کرنے والے! میر عشق جسکی نسبت آپ مجھے ملامت کرتے میں بنی عنده کے جواں کا عشق ہے  
جو یعنی زامل نہیں ہو سکتا، میر عشق قبل کیجیہ کو عشق میں مجبور ہوں) اگر تو اضافت کرتا تو مجھے ملامت نہ کرتا۔

عَدْنَكَ حَالٍ لَا يَسْنِي بِسُسْتَبَرِي عَنِ الْوَشَاءِ وَلَا دَائِنِ بِسُنْخَبَرِي

تمہارے سوا اور لوگوں تک بھی میرے عشق کا چراپ پسچاہی ہے اب نہ تیسرا لاز  
غمزدوں سے پوشیدہ رہ سکتا ہے اور نہ میرا مر من دور ہو سکتا ہے۔

مَحْصُوتِي التَّفْهَمُ لِكُنْ تَسْتَأْتِمْعَةً إِنَّ الْحِسْبَ عَنِ الْعَذَالِ فِي صَمْمَ

نا صع بتو بے شک مجھے غلام دل نے نصیحت کوتا ہے لیکن رافوس، میں اس  
کو سن نہیں سکتا۔ کیونکہ عاشق ملامت گروں کی ملامت سننے سے بہرہ رکھتا ہے۔

إِنَّ الْتَّمَتُّ نَصِيْحَةَ الشَّيْبِ فِي عَدَلِيَّ وَالثَّيْبُ أَبْعَدُ فِي نَصِيْحَةِ عَنِ التَّهَمَّ

ہر ہند کے پری پانچ ناصح ہرنے میں (بوجحدتی ناصح کے) نا راستی کی تہمت سے پاک  
اور بڑا ہے لیکن میں اس کو اس ملامت میں جو دوہوچھے کرنے ہے تم کہاں ہوں (اسکو چاہیں ملت)  
فَإِنْ أَعْرَقَنِي بِالشَّوَّءِ مَا أَتَعْظَتُ مِنْ جَهْلِيَّا بِأَنْذِنِي الشَّيْبِ وَالْهَرَمِ

کیونکہ نیتیتی سے نظر لمارہ نے جو باری کی طرف کھینچا ہے اپنی جہالت کے دلائے دلکشی پر کے دھنکو قبیل نہیں کیا۔

ظَلَمَتُ سُلَيْمَةَ مَنْ أَخْبَيَ الطَّلَامَالِ إِنْ اشْتَكَتْ قَدْمَاهُ الضَّرَرِينَ وَرَهَمَ

افوس میں نے اس ذات افس کے طریقہ مسنونہ کی پیر دری نہ کی جوانہ میری رات کو زندہ رکھتے تھے (عہاد  
کیکھ کھڑے ہتھے) یہاں تک کہ آپ کے دعویٰ قدم بارکہ حرم سے یہاں ہو جاتے تھے یادم کی شکایت کرتے تھے۔

وَشَدَّ مِنْ سَعْيِ أَنْشَأَةٍ وَظَلَوْيٍ      تَحْتَ الْجَارَةِ كَثُرًا مُعْزَفَ الْأَدَمِ

وہ ذات اقدس جس نے جوک کی شدت سے پانچ پیٹ کر کر کسا اور پانچ بارک پر پر پھر انہا  
وَرَأَوْدَنَهُ الْبَيْلُ اللَّهُمَّ مِنْ ذَهَبٍ      عَنْ نَفْسِهِ فَارْكَاهَا أَيْمَانَ شَمَسَهِ

سوئے کے بند پہاڑیں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پھسلا ناچا ہا۔ لپھن حضرت عین  
الصلوٰۃ والسلام نے نہایت استغنا طاہر فرمایا، کچھ پردا ش کی۔

وَأَكَدَتْ زَهَدَةً فِيهَا حَصْرُورَتَهُ      إِنَّ الظَّرُورَةَ لَا تَعْذُنْ فَاعَلِ الْعَصَمِ

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دنیوی حاجت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبر کو ادھی  
زیادہ سُکھم کر دیا۔ فی الحقیقت احتیاج دنیوی عصمت حقیقی پر غالب نہیں آ سکتی  
وَكَيْفَ تَذَعُوا إِلَى الدُّنْيَا حَصْرُورَتَهُنَّ      لَذَاهِكَةَ تَخْرُجُ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ  
کس طرح (ملکن ہے) کہ ایسی ذات اقدس کو اس کی ضرورت دنیا کی طرف  
بلانے کہ اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو دنیا ہی عدم سے وجود میں نہ آتی۔

مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوَافِرِ وَالْقَلَّابِينَ      وَالْفَرِيقُونَ مِنْ عَزِيزٍ وَمِنْ عَجَّمِ

او صاف مذکورہ بالا کے مصادق جناب محمد مصطفیٰ اصلی اشرف تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں  
جو دین اور دنیا جن دل بشر اور دلوں فریقی عرب ادبیم کے سڑاہیں  
تَبَيَّنَ الْأَمْرُ النَّاهِي قَلَّا أَحَدٌ      اَبَرَّ فِي قَوْلٍ لَامِنَةٌ وَلَا نَعْجَمٌ

بخاری پیر غیر علیہ الصلوٰۃ والسلام اپھ کاموں کی برائیت کرنے والے اور برسے کاموں سے بدلکے  
والے ہیں۔ پس کوئی امر و نبی بیان کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ راست گز نہیں ہے یا کسی  
سوال کے جواب دینے میں آپ سے بڑھ کر کوئی اور صادق نہیں ہے۔ خواہ دہ جواب فتنی میں ہو  
یا اثبات میں کیونکہ جواب کی یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

هُوَ الْعَجِيْبُ الَّذِي تُرْبِّي شَفَاعَتَهُ      بِكُلِّ هُوَلٍ مِنَ الْأَهْوَالِ مُفْتَحِجٌ

آپ خدا نے تعالیٰ کے دہ محجب ہیں کہ مصیبتوں میں ہر ایک سخت مصیبت میں آپ کی شفاعت کی

نق کی جاتی ہے احادیث شریف میں آیا ہے انا حبیب اللہ و لاقبر میں خدا کا درست ہے (سچے فرنیز)  
**دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَكْوِنَ يَهُ** مُسْتَكْوِنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْقَصِبٍ  
 اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خدا کی طرف بلا یا پس جو لوگ آپ نے دامن عالی سے  
 دا بستہ ہیں وہ واقعیت (ایسی ضرورتی کی پڑتے ہوتے ہیں جو لوٹنے والی ہیں۔  
**فَأَنَّ الْقَيْتَيْنَ فِي خَلْقٍ وَّ فِي خَلْقٍ** وَلَمْ يُدَانُهُ فِي عِلْمٍ وَّ لَا كَرْدَمَ  
 حضیر علی الصلاة والسلام حسن صورت اور سجن سیرت میں سب پرینگریں پریقت سے  
 اور کوئی تغیری بھی حضیر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت معرفت اور سعادت تک نہیں پہنچا  
**وَكَلَّهُمْ قَنْ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتَسِمٌ** عَزِيزٌ أَنْ الْبَخْرُ أَوْ رَشْقًا أَنَّ الدَّيْرَ  
 "ام پرینگریں علی الصلاة والسلام کے دو یا تین معرفت اور بالانجمنت سے پانی کے چڑیا قطروں اب کی درجاتیں  
 وَأَقْتُونَ لَدْنَيْلَهُ عَنْدَ حَدِّهِمْ منْ نَقْطَةِ الْعَلَمِ أَوْ مِنْ شَكْلِ الْجَمَدِ  
 تلمیم پرینگر علی الصلاة والسلام کی بارگاہ میں پانچ پانچ تربے پر کھڑے ہیں اور اس مدد  
 کو حضیر علی الصلاة والسلام کے حدیث سے وہ نسبت ہے جو نقطہ کو علم سے اور اعراب کو تواب بخوبت سمجھے  
 فَهُوَ الْيَتَى تَعْرَفُ مَعْنَاهُ وَصَفْوَرَهُ ثُمَّ أَصْطَفَاهُ حَسِيبًا بَلْدَى الْكَسَبِ  
 پس آپ وہ اشرف الانبیاء ہیں جن کی صورت اور سیرت مکمل ہو گئی پھر خدا نے غالتوں نے آپ کو اپنا درست منتخب کیا۔  
**مَذَرَّهُ عَنْ شَرِيْبِيِّ فِي حَمَادِيْنِهِ** فَجَوَهْرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَدَرُ مُنْتَقِبِهِ  
 حضیر علی الصلاة والسلام بالاتر ہیں اس امر سے کو حضیر علی الصلاة والسلام کی ختنی صفات میں  
 کوئی اور شرکت ہو سکے پس اس صورت میں حضیر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر جسم نہیں ہو سکتا  
**دَعَ مَا اذْعَنْتَهُ التَّصَادِيِّ فِي تَبَقِّيْهِ** وَاحْكَمْ بِمَا شَتَّتَ مَذْحَافِهِ وَاحْتَكِهِ  
 جو کوئی نصادری نے پانچ پرینگر علی الصلاة والسلام کی ثابت ادعا کیا ہے انہیں خدا کا بیکہنا، اس کو چھوڑتے  
 باقی جو تیرا جی چاہے بالامت درج حضیر علی الصلاة والسلام کی خضیلتیں کو یاں کر اور اچھی طرح یاں کر

وَأَنْسَبَ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرْفٍ      وَأَنْسَبَ إِلَى قُدْرَتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظَمٍ

حضر علی الصَّلَوة والسلام کی ذات مقدس کی طرف جس کمال کو تو چاہتا ہے اور آپ کے تبرکے  
متعلّق جس بزرگی کو چاہتے ہے منسوب کر۔

فَإِنْ تَضَلَّ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّنَّ لَهُ حَذْرٌ فَيُغَرِّبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِقَمْبَرٍ

کیونکہ حضر علی الصَّلَوة والسلام کی بزرگی کی کوئی حد صفائی نہیں ہے جس کو بولنے والابیان کر سکے  
لَوْنَاسَبَتْ قَدْرَةً أَيَّاً هُ عَظَمًا      أَخْيَى أَسْنَهُ حِينَ يُذْلَى دَائِسَ الْمَجْمَعِ

اگر حضر علی الصَّلَوة والسلام کے محترمات غلطت میں حضور کی قدر منزالت کے برابر ہوتے تو حضر علی  
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جس وقت بو سیدہ ٹولیوں پر ٹھہرا جاتا تو انہیں زندہ کر دیتا۔

لَمْ يَتَّهِجْنَا بِمَا تَعْنَى الْعُقُولُ بِهِ      حَرَصًا عَلَيْنَا فَلَمَّا تَرَبَّ وَلَمْ يَهْجُرْ

حضر علی الصَّلَوة والسلام نے وجہ اس شفقت کے جو حرم سے رکھتے ہیں الیسی بیزروں سے جن کے سمجھنے  
میں لوگوں کی عقليں حیرت نہ ہو جائیں کم کواز الشیخ میں اور حفت مینہن مثلاً اس نے تو ہم شک دیم  
میں پڑے اور نہ حیرت زدہ ہونے۔

أَعْيَى الْوَرْزِيَّ فَهُمْ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَى      لِلْقُرْبِ وَالْبَعْدِ فِينِيهِ عَذْرٌ مُنْتَحِمٌ

حضر علی اش علیہ وسلم کے فہم کمالات نے غلت کو عاجز کر دیا۔ پس کسی شخص کو خواہ وہ حضر علی کرم  
صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یا عیز زمانہ یا مقام کا ہم بخراں کے کہہ اپھما کمالات نبڑی علیہ حیرت  
وَالشَّدَادُ كَبَيَانَ كَرَنَهُ مِنْ عَاهِزٍ هُوَ دِيكِيَّا نہیں جاتا۔

كَالْقَمَسِ تَظَهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ      صَغِيرَةٌ وَشُكْلٌ الظَّرْفُ مِنْ آمَجَهِ

حضر علی کرم صلی اش علیہ وسلم کی مثال موجود کی سی ہے جو دور سے تو آنکھوں میں چھوٹا دکھانی دیتا  
ہے اور نزدیک سے آنکھ کو خیرو کر دیتا ہے۔

وَكَيْفَ يُبَدِّلُهُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ      قَوْمٌ زَيَّا مُؤْتَلِّنَا عَنْهُ يَالْخَلْمِ

جو قوم خفت رہے اور حضر علی الصَّلَوة والسلام کی حقیقت سے محروم رہ کر اپنے خواب بخال پر قافی

ہے وہ کیسے حنوتی اسرار علیہ دلم کی حقیقت کو دنیا میں پا سکتی ہے ؟ یعنی نہیں پا سکتی۔

فَبَلَّغَ الْعِلْمَ فِينَا أَنَّهُ بَشَرٌ ۝ وَأَنَّهُ خَيْرٌ حَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ

پس سارے علم کا غنیہ احمد صلی اسرار علیہ دلم کی حقیقت کی نسبت مرفیٰ ہی کافی ہے کہ آپ انہیں اور تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔

وَكُلُّ أَيِّ أَنْوَارِ الرُّسُلِ الْكَرَامُ يَهُمْ ۝ فَإِنَّمَا اتَّصَّلَتْ مِنْ تُورٍ بِهِمْ

جس تدبرات انبیاء علیٰ بنی اسرائیل حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے فی الحقیقت دھکام ان کو آپ ہی کسی ذر سے حاصل نہیں۔  
وَأَنَّهُ ثَمَنٌ فَضْلٌ هُمْ كَوَاكِبُهَا ۝ يُظْهِرُنَّ أَنَّوْهُمْ أَنَّاسٌ فِي الظُّلُمَاءِ

گیر کو حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم آناتا ہے کمال ہیں اور باقی انبیاء علیٰ بنی اسرائیل حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم کے مقابی میں بزرگواروں کے ہیں جو علم اور حدیث کی درشنی کو ضلالت اور بھالات کی نسلت میں ابل دنیا پر نظر لے کر رکتے ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا طَلَعَتْ فِي الْكَوْنِ عَمَّا هُنَّا ۝ الْعَالَمَيْنَ وَأَنْجَيْتْ سَلَّمَ الْأَمْمَهُ

یہاں تک کہ جب یہ آناتا ہے کمال رشدِ بشریت میں انسان کی بخشی ہے اس کی بخشی کو اپنے کروڑوں کو زندہ کیا۔

كَالزَّهْرَىٰ فِي تَرَفٍ وَالْمَدْرِي فِي شَرَفٍ ۝ وَالْبَعْرُوفُ فِي كَرْمٍ وَالْمَدْهُوفُ فِي هَمْمٍ

حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخشی میں بزرگوں، بزرگی میں چودھویں راست کے چاندا بخشنیں دیا اور بہت میں نہاد ہیں  
کافی، وہو فَرِزْدٌ فِي جَلَالِتِهِ ۝ فِي عَنْكَرِ حِينَ تَلَاقَاهُ وَفِي حَسْمٍ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت دیوبنت جلالات میں فردیگاہ ہیں جب کبھی تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم کو  
کیا لادیکھ کا تو سمجھے ایسا معلوم ہو گا کہ آپ کے ساتھ مددگاروں کا اینہہ کثیر اور پاہیوں کا انکل عظیم ہے۔

كَائِنًا اللَّهُوَ السَّمَنُونُ فِي صَدَافٍ ۝ مِنْ مَعْدِنٍ مَنْطَقِيْقِيْهُ وَمُبَسِّرٍ

حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم کے دو معدنوں اول نیانِ درختان سے وقت ملکم جو بلات ارشاد ہوتے ہیں۔ دوم  
دہان یا کس سے بوقت تیسم جب دنداں مبارک درختان ہوتے ہیں تو وہ مثل ان مویوں کے میں کہ ابھی  
سیسپ میں پوشیدہ میں یعنی سیسپ کے عقلی مقابلہ عام مویوں کے زیادہ شفاف درختان ہوتا ہے۔

لَا طَيْبٌ يَعْدُلُ تُرْبَةً أَضَعَّهُ أَعْظَمَهُ      ظُلْفٌ لِسْتَشِقْ قَنْهُ وَمُلْتَشِجْ

كُوْنُ خُوشِيوْسْ خاْكِ پاکِ کی برابری نہیں کر سکتی جو حضور علی الصلوٰۃ والسلام کے حجّم طہر کو اپنے اندر لئے ہو رکھتے ہیں۔  
اہمَّ مَوْلَدُهُ عَنْ طَيْبٍ عَنْصِرٍ ۝      يَا طَيْبٍ مُبْنَدِكَإِقْنَهُ وَمُخْتَسِجْ

حضور علی الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ ولادت مبارک نے بسب حضور کی پاکی ذہرت کے بہت سے عجائب امور کو خاص کیا۔ افسوس ہے حضور علی الصلوٰۃ والسلام کا حسن ابتداء ولادت، اور حسن خاتمه ولادت... یا یہ سبھے کہ بسبیب فلہر اور غریبہ ولادت نے آپ کے حجم مبارک کی پاکیزگی و لطافت کو نماہر کیا۔

يَوْمَ تَقْرَسَ فِينَهُ الْقَرْنُ أَنْهَمْ      قَدْ أَنْزَدْنَا مُحْلُولَ الْبُؤْسِ وَالْقَرْجَمِ

حضور علی الصلوٰۃ والسلام کی ولادت کا دن وہ دن تھا جب اہل فارس نے فراست سے حملہ کر دیا کہ  
وَمَقْرِيبٌ سُخْتٍ اور عذاب کے نزدیک سے ڈالنے جائیں گے یعنی ان پر تنگی اور عذاب ناندی ہو گا۔

وَهَلَّتِ الْوَوْنُ كَنْزِي وَهُوَ مُنْصِدِي ۝      كَنْزِيْلِ أَصْحَابِ كَنْزِيْ كَنْزِيْلِ مُلْتَشِجْ

حضور علی الصلوٰۃ والسلام کی ولادت کے دن کسری کا محل ایسا پاش پاٹھ ہو گیا جیسے ذیشیاں کا شکر  
تیرت بتر سو گیا اور پھر وہ آپ میں کھٹا نہ سو کا یعنی جس طرح لشکر اہل فارس قابل اجتماع نہ رہا اسی  
طرح محل کسری قابل مرمت نہ رہا۔

وَالثَّارُخَامِدَةُ الْأَنْقَابُ مِنْ أَسْفَ ۝      عَلَيْنَهُ وَاللَّهُ سَاهِيَ الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ

اگل کے شعلے اس وجہ سے بھر گئے کہ وہ سادہ ندی کے نیچے ہونے پر اسکے حشرت برداشت تھے۔ اور  
نہ فڑت کی انکل بسب شرمندگی غلطی میں ہو گئی داینی ولادی کو چھین گکر دوسروی بگد بہنے لگی یا بالات  
سر ایمگی پانچ منیج کو بھل گئی۔

وَسَاءَ شَأْوَةً أَنْ عَاصَتْ بُحَيْرَهَا ۝      وَرُزْدَ وَالْهُدَى الْفَيْنِيْطِ حِينَ ظَهَ

سادہ کے رہنے والوں کو اس امر نے اندر نہ کیا کہ ان کے بھی وہاں جذب ہو گیا اہل اس کے  
گھاٹ پر آنے والا شہنشاہ اور شیگین گیا

كَانَ رَبُّ الْكَوَافِرَ مَا يَأْتُهُمْ بَلَىٰ      حَذَّرَ أَوْ يَأْتُهُمْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرْجِعُوا  
 كُوْيَنْمُ كِيْ دِجْسَهْ سَهْجَسَهْ مِنْ بَلَىٰ      حَذَّرَ أَوْ يَأْتُهُمْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرْجِعُوا  
 اُورِيَانِيْ مِنْ بَلَىٰ كِيْ خَاصِيتَهْ جَزِيزَاسِهْ مِنْ بَلَىٰ جَاتِيْهْ بِهِ بِعِيْكَ جَاتِيْهْ بِهِ ) يَعِيْ طَرَادَتَ  
 اُورِيَانِيْ مِنْ بَلَىٰ كِيْ خَاصِيتَهْ جَزِيزَاسِهْ مِنْ بَلَىٰ جَاتِيْهْ بِهِ جَاتِيْهْ بِهِ ( يَعِيْ سُونَشَهْ پِيدَاهُوكِيْ -  
 وَالْحَقُّ يَظْهُرُ هُنْ مَغْنَىٰ وَمَنْ كَلَمَهُ  
 جَنْ حَضُورُ عَلِيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كِيْ تَبِوتَهْ پِرْ شَهَادَتَهْ دَفَهْ رَهْبَتَهْ اُورِصَادَقَتَهْ سَعْيَهْ  
 بِهِمْ رَهْبَتَهْ هِنْ اُورِصَادَقَتَهْ سَعْيَهْ وَلَفْظَهَا هَرِهَدِيْهِ بِهِ  
 عَمَوَادَصَفَنَا فَاعْلَانُ الْبَخَانِيْرَ لَمُ      ثُمَّةُ وَبَارِقَةُ الْاَنْدَارِ لَمُ تَشَجَّ  
 مَنْكِينَ يَلِيْهِ اُندَهْ اُورِبِرَهْ هُونَگَنَهْ كِهْ زَاهِنِيْسِ عَالِمِ بَارِتَهْ سَانِيْ دَيَاتِعَا اُورَتَهْ غَصِبَهِ لَهِ  
 كِيْ بَعْلِيْ يَا اسلامُ كِيْ تَلَوَارِ اَهْنِيْسِ لَفَرَاتِيْهِ تَهِيْ  
 مِنْ بَعْدَ مَا اَخْبَدَ لِلْقَوْمَ كَاهِهِنُهُ      بَأَنْ دِينَهُمُ الْمُؤْمِنَهُ لَمْ يَفْسُدْ  
 دَهْ جَانِ لَوْجَهْ كِرَانِدَهْ اُورِبِرَهْ هُونَگَنَهْ باِجَدِيْكَهْ اسِهْ سَهْ پَهْلَهْ انِهْ كِيْ قَبَلِ كَاهِنِ اَهْنِيْسِ  
 يَا خَبِرَدَهْ چَخَاعَكَهْ اَنِهِ دِيْنِ باَطِلِ اَبِ قَامِ اَهْنِيْسِ رَهْ كَهْ كَهْ  
 وَبَعْدَ تَاعِيْنَوْنِيْنِ الْأُوقَنِ مِنْ شَهِيْنِ      مُنْقَضَهُهُ وَقَنِيْنِ مَأْنِيْنِ الْأَرْضِ مِنْ مَهِيْنِ  
 دَهْ لَوْگِ يَلِيْهِ اُندَهْ اُورِبِرَهْ هُونَگَنَهْ كِهْ باِجَدِيْكَهْ اَهْنِيْسِ نَهْ آسَانِ سَهْ تَارَفَلِ كِوْسِ طَرَحَ گَرَتَهْ  
 دِكْهَا جِسِ طَرَحَ كِهْ زَمِنِ پِرِيْتَ اَنْدَهْ گَرَهْ بِهِ سَخَهْ گَرَهْ پِرِيْهِ عَالِمِ بَلَانِهِ  
 حَقِيْقَهِ عَدَاعَنِ طَبِيقِ الْوَقِيْعِ مِنْ هَيْزِهِ      قَنِ الشَّيْاطِينِ يَقْوِيْلَ اَشَرِ مُنْهَزِمِهِ  
 يِهِلَّهُكَهْ شَيَاطِينِ پِرِشَدَهَا كَيْ اَشِيشِ پِرِيْهِ كِهْ آسَانِ كِهْ دَهْلَهِ كِهْ چُورِكَهْ بِهِ تَهَاشِلِهِ كِهْ دَهْرَكَهْ يَعِيْهِ بَاجَهَ  
 كَانَهُمُ هَرَبَّا اَنْطَالُ اَبَدَعَهُ      اوْعَنَكَهُ بِالْحَسِيْنِ مِنْ رَاهِتَنِهِ دُهْ  
 شَيَاطِينِ اسِ طَرَحَ بِهِيْهِ اَبَزِهِ كِهْ بِسَادِ بَيْتِ اَشَرِ سَهْ دَلِيلِ هُوكَهْ بِهِ جَاتِيْهْ تَهِيْ يَالِينِ كِهْ جَمِوكَشِيلِينِ  
 كَفَارِ كَاشِرِ تَحَاوِيْ جَعْنَدِ صَلِيْ اَشَرِ عَلِيِّ وَآهِوَلِمُ كِهْ دَوْلَهِ كَعْتِ دَسَتِ كِهْ تَلَكِيْنِيْلِ سَهْ تَلَكَارِيْكَيَا تَهَا

نَبِّذَاهُ بَعْدَ تَشْيِيجِهِ بَطْنِيهِ سَا نَبِّذَ النَّسِيجَ مِنْ أَجْبَاءِ مُلْتَقِيِّ

حضر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سگریزیوں کو در آں حال کردہ آپ کے کفت دست میں بیخ کر رہے تھے اس طرح پھریکا جس طرح خدا نے تعالیٰ نے یونی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو محیل کے پیش سے باہر ہٹ کا کھا جائز ت لد عورتہ الا شجاع سائیدہ نبیتیہ علیہ ساقی بلا قدم

حضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے اور بغیر باطل کے تنے کے ہاتھ پلٹے من جانہ کا نام سطرت سلطراً لما کتبَتْ فَرُوعُهَا مِنْ بَدِينِ الْمَخْظُونِ فِي الْقَدْمِ

اس وجہ سے کہ ان درختوں کی شاخوں نے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا پلٹے راستیں خوشما لیکر یہیں پیدا کر دی تھیں ایسا سمجھنا چاہیے کہ وہ درخت اطاعت والقیاد کی سیدھی طریں لکھتے ہیں۔ مثل الغمامۃ آتی ساز سائیدہ نبیتیہ حَرَثَ طَبِینَ لِلْمَجِيْرِ حَمِیْرِ

وہ درخت اس بدل کی طرح جو حضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جہاں وہ تشریف رکھتے یا لے جاتے سر مبارک پر سایہ کئے رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جلتی دعویٰ پ سے محفوظ رکھتا۔

أَقْتَنَتْ بِالْقَسْرِ الْمُنْتَشِقِ إِنَّ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ نِتْيَةٌ كَبِيرَةٌ الْقَسْرُ

میں قرکی جو حضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اشارہ انگشت سے د پاہ ہو گیا تھا، قسم کا کرکھا ہوں کہ اس نکر جناب کے قلب منور سے ایک الیٰ صبح نسبت ہے جس پر مریم قسم کھانا بالکل سجا ہے۔

وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ حَيْيٍ وَمِنْ تَرْبَةٍ وَكُلُّ طَلْوَنٍ قِنْ الْكَفَارِ عَنْهُ عَمَّ

میں اس عجیم خیر ادکم کی قسم کھاتا ہوں جن کو غار نے چھپایا اس طرح کہ تمام کفار کی آنکھیں ان سے انہی ہو گئیں۔ یعنی کافر آپ کو دیکھنے سکے

فَالْقِذْنَى فِي الْغَلَمَ وَالْقِذْنَى لَهُمْ بَرِيَا دَهْمَيْتُوْلُونَ مَا يَأْتِي الْغَارُ مِنْ أَكْمَ

حضر سروکانت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں موجود تھے۔ کفار لیے انہے ہوئے کہ کہنے لگے غار میں توکیتی بیشتر ہیں

ظَلَّوْا الصَّمَاءَمْ وَظَلَّوْا الْعَنْكَبُوتَ عَلَى حَمِيرِ الْبَرِّيَّةِ لَهُ تَسْبِيهٌ وَلَهُ تَحْمِيَّهُ

کفار نے خیال کیا کہ اس غار کے من پر جس میں اشرف المخلوقات ملی اسراعیلہ طم بچپے ہوئے تھے، نہ کبرتوں نے  
انٹبے دیتے اور نہ کڑی نے جالتا نہ ہے میں انگریزی ملی اسراعیلہ طم غار میں بچپتے تو نہ کبروں غار کے من پر،  
انڈے دیتے نہ مکڑی نے جالتا ہوا (

وَقَالَهُ اللَّهُ أَغْنَتَنَا عَنْ مُضَاعَفَةٍ فَمَنَّ اللَّذُو دَعَ وَكَفَ عنْ عَالَمِنَ الْأَطْمَامِ

خدا تعالیٰ کی خاطر نے آپ ملی اسراعیلہ طم کو دوسرا نہیں اور بلکہ قلعوں کی پناہ سے بے نیاز کر دیا تھا  
مَاسَمَتِنِ الْكَدْهُ رَضِيَّهَا وَسَجَنَتْ بِهِ لَلَا وَلِلَّهِ جَوَارِقُهُ لَهُ يُضَاجِ

زانے نجھے کبھی بخیلیف اور ضرر نہیں دیا جس حالت میں کہیں آپ ملی اسراعیلہ طم سے طالب پناہ  
ہوا ہوں مگر میں آپ سے ایسی پناہ کے حاصل کرنے پر فائز ہوں اک جس کو کوئی طاقت مغلوب  
نہیں کر سکتی یعنی دامنی احمد اعلیٰ

وَلَا إِنْتَنَتْ غَنِيَ الدَّارَنِينَ مِنْ يَدِهِ إِلَّا إِنْتَنَتْ النَّذِي مِنْ خَيْرِ مُنْتَهِمْ

میں نجہب کبھی آپ ملی اسراعیلہ طم کے بارک ہاتھ سے دین دنیا کی دولت کی خواہش کی تو مجھے  
فِ الْفَعَادِ إِذْ هَرَبَنِيْنَ ہاتھ سے منماگی مراد مل گئی

لَا تُنَكِّرْ لِلْوَحْيَ مِنْ شَرِيْدَيَّةِ إِنَّ لَهُ قَلْبًا لَذَا كَاهَتِ الْعَيْنَانَ لَهُ زَيْنَهُ

اس دھی سے جو آپ علی الصلاۃ والسلام کو خواب میں آتی ہے، انکا درست کرد، کیونکہ آپ کا قلب  
بارک جاگا رہتا تھا، جب آپ ملی اسراعیلہ طم و مسلم کی آنکھیں بظاہر سو جاتی تھیں۔

وَذَلِكَ حِينَ بُلُوغِ قِنْ ثُبُوتِهِ فَلَكِنْ يُنَكِّرْ فِيَّهُ حَالٌ مُخْتَلِجٌ

اور خواب میں دھی کا آنا اس وقت سے تھا جب آپ ملی اسراعیلہ طم بخوبت کو پہنچنے  
والے تھے پس ایسی حالت میں جب آپ پرے بالغ ہیں دھی سے انکار کی گنجائش نہیں۔

ثَمَّا كَذَّ اللَّهُ مَا دَعَنِي بِمُنْكَسِبٍ ذَلِكَنِيْنَ عَلَى غَيْبِ بِسْتَهِمْ

آخر اضطراب بعد ادھی کبھی بہر سکتی ہے اور کوئی پیغمبر کبھی اخبار غیب پر تمہم ہر سکتا ہے۔ یعنی نہ

وَمَنْ كَبِيَ سُوكَتِيْ هَيْهُ اُورَنْ بَنِي صَادِقَ پِشْكُونِيْ سَتِّهِمْ هَيْهُ اُورَنْ .

**كَحْ أَبْرَأَتْ وَهَبْلَأَ بِاللَّئِسْ رَاحْتَهُ** وَأَظْلَفَتْ أَرْبَأَ قِنْ زِنْقَلَ اللَّمَجْ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے بارہ مریضوں کو چھوکر اچھا کر دیا اور دیوالاں کو قید ہجزوں سے رہا کیا، بہت سے گمراہیں کو گناہیں کی قید سے بخات دی

**وَأَخْيَتِي السَّنَةَ الْقَهْبَأَةَ دَعْوَتُهُ** حَتَّى حَكَتْ غَزَّةَ فِي الْأَغْصَرِ الدَّهْمِ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے خشک سال کو ایسا سر سبز اور شاداب کر دیا کہ وہ سر سبز سال سالہ میں زندگی پیشانی کی زیب دینیت ہمیگی۔

**بِعَادِرِضِ جَادَ أَوْخَلَتِ الْطَّاهِرَ بِهَا** سَيِّدَنَا قِنْ الْيَمَهَا وَسَيِّدَنَا قِنْ الْعِيرِ

حضرت علی الصلوٰۃ والسلام کی دعا نے خشک سال کو الیے بادل کے ذریعے سر سبز کر دیا جو خوب دل کھول کر برسا۔ یہاں تک کہ وادیوں پر دریا کا گھان ہوتا تھا یا معلوم ہتا کہ عدم کا سیلا بس میں ٹوٹے ہے دامت لدینا ففاقت کل مفعجزہ قِنْ الْقَبِيْتَيْنِ لِذْجَاتِ وَلَمَّا دُمْ

آیات قرآنیہ ہمیشہ کے لئے طبور نہ مجبہ ہمارے پاس رہیں گی سواس خصوصیت سے وہ گل عنبری پر جوانیا علیہم السلام سے صادر ہوئے ہیں، غالی ہیں کیونکہ موجبات صرف اسی وقت کے لئے تھے بعد میں صرف حکایات موسوی گئے

**لَهَا مَعَلَتْ كَسَوْجَ الْبَخْرِفِ مَدَدْ** وَفَوْقَ جَوْهَرَةِ فِي الْجُنُنِ وَالْقَيْمَهِ

آیات قرآنیہ کی ایک معانی پر مشتمل ہیں جو منزد دیا کی طرح ایک درسے کے موید ہیں اور وہ خوبیوں اور قیمتیں میں گورہ دیا ہے کہیں ٹڑک رہیں

**كَاهِنَهَا التَّوْضُّعُ كَبِيْضُ الْوُجُوْمُ بِهِ** مِنَ الْعُصَمَهَا وَقَذْ جَاهَنَهَا كَالْعَسَمَهِ

گی آیات قرآنیہ حوض کوڑ ہیں جس سے قیامت کو گھن بھار دل کے چہرے منڈہ ہو جائیں گے حلاکت حوض پر آنے سے پہلے وہ کوئی کل کی طرح یا مہول گے۔

قَدْ شَنِكُوا الْعَيْنَ هَذَا هُنَّ مَنْ يَكْدِي  
وَشَنِكُوا الْقُمَرَ طَغَمَ الْمَاءُ مِنْ سَقَمٍ  
کیونکہ انکھ کبھی اشوب کی وجہ سے سوچ کی رشی کو رکھتی ہے اور کبھی منکی بیماری کے باعث پانی کا مزہ  
اچھا معلوم نہیں ہوتا۔

يَا أَخْيَرُهُ مَنْ يَعْمَلُ الْعَالَمَوْنَ سَلَحَةً  
سَعِيًّا وَأَقْوَى مُثْنَنَ الْأَيْنَيْنِ الرُّسْبَجِ  
لے ان تمام مقدسین کے اعلیٰ و افضل جن کے دربار کے سامنیں، پیاہ دوڑتے ہر نے اور  
تیرگام اور تیروں پر سوار ہو کر قصد کرتے ہیں۔ لے ان تمام اہل حجود کرم سے اعلیٰ و افضل جن کی بارگاہ میں  
میں اہل حاجت پیاہ اور تیر زندگانی کو مغلوب پر دوڑتے چلتے ہیں۔

وَمَنْ هُوَ الْأَذْنَةُ الْكَبِيرَى لِسُعْدَى  
وَمَنْ هُوَ الْقَصَّةُ الْعَظِيمُ لِمُعْتَدِلِهِ  
لے وہ ذاتِ اقدس بوجعیرت گیر کے لئے ناشانِ عظم ہیں اور لے وہ وحدتِ اقدس بوجعینت  
بمحفظہ والے ریتی جو سائلِ مقدوری چیرکے مل جانے کو غنیمت کھتا ہے (کیونکہ بڑی غنیمتیں  
سرینتِ من حرمہ لیکلا می خرمہ گناہ کی البدھ فی ذاہرِ من الظالم

آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عدم مکر سے عدم مسجد اقصیٰ تک اس طرح تشریع لے گئے جس طرح چاند  
رات کو تاریخی شب میں چلاتا ہے

وَبَثَ تَرْقَى إِلَى آنَّ نَلَتْ مَتَّبِلَةً  
مِنْ قَابَ قَوْسِينَ لَغَتَنْدَلَذَوَلَقَرَبَمْ  
اد راپ صلی اللہ علیہ وسلم رات چڑھتے چڑھتے منزل قاب قوسین پر پہنچے (یعنی آپ اور خدا تعالیٰ  
کے درمیان میں دو گوشہ کمال کا فرق تھا) یعنی منزلِ الیسی ہے جو نہ قبل اذیں حاصل کی گئی اور نہ ہی  
طلب کی گئی یعنی اس سے قبل نہ کبھی کوئی یہاں تک پہنچا اور نہ اس کا طلب گا رہنا۔

وَقَدْ مَنَكَ جَمِيعَ الْأَدْبَارَ بِهَا  
وَالرُّسْلُ تَقْدِيمَهُ خَدْنَدَ وَعَلَ خَدَه  
تمام انبیاء رسول علیہما السلام نے وہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپا پیشواؤ بنا یا حجر طرح آتا پائے  
خادموں کا پیشواؤ بنا یا جاتا ہے

وَأَنْتَ تَحْتِيفُ الْكَبْرَى الطَّبَاقَ بِهِنَّ فِي مَوْكِبِ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبُ الْعَالَمِ

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی تو تھے کہ جس شکر میں آپ علم بردار تھے اُس کی بیعت میں سات آسمانوں کی تکیا۔

حَقِيقَةً لِذَا الْمُرْتَدِ نَعْ شَوَّا لِلْمُسْتَبِقِ مِنَ الدُّنْوَادَلَامَنْقَلَ الْمُسْتَبِقِ

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتے بڑھتے دہاں پہنچے کہ کسی درسے آگئے بڑھنے والے کے نئے کوئی درج

قرب کا نہ ہا اور ذکری اور چڑھنے والے پیغمبر یا جریانیں کے نئے کوئی بڑھنے کے نئے مدد باقی رہی۔

حَفَضَتْ كُلَّ مَقَامٍ بِالْإِضَافَةِ إِذْ تَوَدَّتْ بِالرَّفِيعِ مِثْلَ الْمُغْرِبِ الْعَالَمِ

جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے نئے مفرد علم کی طرح بلنسے گئے تو آپ علی الصلوٰۃ والسلام نے

تَامَ انبَيَا عَلِيِّمِ الْعَالَمِ كَمَقَامَاتِ كُوپِيِّ نَزْلَتِ عَالِيَّ كَرْتَابَيِّ مِنْ بَيْتِ كُرْبَیَا

كِيمَائِ قُوَّزَ بِوَضْلِمِ آئِيِّ مُسْتَبِقِ خَنِّ الْعَيْنَوْنَ وَسِيَّاَيِّ مُسْتَبِقِ

بِلَاقِرْبِ پَرَآپِ اسَّلَنَ بَلَانَ كَنَّتْ تَحْتَ كَآپِ اسَّنَتْ دَلَلَ سَبِّهِ دَهْرَهُوںِ جَوْ كِيمِيِّ كَسِّيِّ تَرْبَتْ  
کی آنکھ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوئی اور یہ مسماز مرتبہ پر اطلاع پانی جس پر کیمی کوئی عارف آگہا نہیں ہوا

لَهْرَتْ كُلَّ بَخَالَتِ غَيْرِ مُشَدَّدِهِ وَجَزَّتْ كُلَّ مَقَامِ عَذَّرِ مُزَدَّهِ

پس تیرہ اس ملاقات کا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی عزت بلاشکت غیرے حاصل  
کی اور ہر ایک مقام سے بلازماعت گندگے

وَجَلَ وَقَدَّا زَمَانَفِيلَتْ مِنْ رَوْبَيْبِ دَعَرَزَادَلَاثَ مَا أَفْلَتَتْ مِنْ يَعْصَمِ

جن ملائیج عالیہ پر آپ ملکمن کے لئے ان کی قدر میں نہیں بہت بڑی ہے اور جو نعمتیں آپ کو  
دی گئیں ان کا حصول کسی غیر کے نئے مشکل ہے کوئی ندان کی تسلیات اور ظاہر و نیایی نہیں ملتوں میں مفقود ہیں۔

بُشَرِي لَنَامَعْشَرَ الْإِسْلَامَ لَنَا مِنَ الْوَنَائِهِ وَرَكَنَّا عَذَّرَ مُنْقَدِهِ

مسلمانوں یہ شروع خاص ہے کہ خدا کے فضل سے حصہ ملی اللہ کی شریعت حفظ ہمارے لئے

ایک ایسا ستون ہے جو کمی لغزش نہیں کھانا ہے کا بلکہ بہتر کے نئے ملکمن اور مضرور ہے کا۔

لَتَادِعَى اللَّهُ دَاعِينَا لِطَاعَتِهِ يَا أَكْرَمُ الرَّوْسُلِ كُلُّا الْأَذْمَرِ الْأَصْمَرِ  
 جب حضور علیہ السلام کو حیات کو خدا تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں، خدا تعالیٰ نے بہترین پیغام  
 (علیہ علیم السلام) کر کر پکارا تو بلاش سُم اشرف الامم ٹھہرے  
 وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نَصِيرًا لَنْ تَلْقَهُ الْأَسْدُ فِي أَجَاهِمْ تَجْهِيجَ  
 اور جس شخص کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امداد ہو اگر اس کے سامنے بچکوں کے شیر میں آجائیں تو  
 مارے خوف کے دم بخوبی ہو جلتے ہیں  
 وَلَنْ تَرَى مِنْ كَلِيلٍ غَيْرَ مُنْتَصِيرٍ إِلَهٌ وَلَا مِنْ عَدْنٍ غَيْرَ مُنْفَصِرٍ  
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کئی غلام کو زد کیوں گے کہ آپ کی امداد سے وہ فتح نہ ہو اور آپ کا  
 مخالف کوئی ایسا نہ ہو گا جو ذلیل اور مکسر حال نہ ہو  
 أَحَلَّ أَمْتَهَ فِي حَزْنٍ مَلَتْهُ كَالْيَثْ حَلَّ مَعَ الْأَسْبَلِ فَلَمَّا  
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی انت کو اپنے دین کے قلمدیں لے لیا جس طرح بچکوں کا شیر  
 لے پئے پسکے کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے  
 لَذِبَّدَاتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ مِنْ حَمْلٍ فِيهَا وَكُلُّ خَصْمٍ الْبَرْهَانُ مِنْ تَحْمِيمٍ  
 کی باتفاق مجدد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کو پنجاہ دھکایا اور کئی دفعہ  
 معجزات نے سخت ترین دشمن کو منذر کیا  
 كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأَرْضِ مَغْزِهَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالثَّالِثُونَ فِي الْمُؤْمِنِ  
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ جاہلیت میں آئی ہر کو علم حقیقی کا عالم ہوا اور تمیم رکھ مصاحب  
 ادب ہوتا (ایک سمجھ دار آدمی) کیلئے یعنی حقت ہے لہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے محظوظ ہے  
 فِيَاحْسَادَةَ نَفْسِي فِيِ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ تَشَدَّ الدِّينَ بِالْأَنْهَى وَلَمْ تَشَهِ  
 اے بیر غنگارو! میرے نفس کی تجارت کو تو دیکھو کہ اس نے زندگی کے حومن میں دین خریدا  
 اور نہ اس کے خریدے کا ارادہ کیا ہے

وَمَنْ يَعْمِلْ إِحْلَاقَهُ بِعَاجِلٍ هُوَ  
 يَعْلَمُ اللَّهُ الْعَزِيزُ فِي بَعْدِهِ وَفِي سَلَامٍ  
 جس شخص نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلتے ہی پڑھ لالا تو کچھ شک نہیں کہ اس نے پرمع اور مسلم  
 دولت میں بہت بُراقان اٹھایا ہے  
 اُن اُتْهَى ذَنْبَافَاعْهَدِي بِمُشْتَقِضٍ قَنَ الْقَيْنَ وَلَا حَبَّلَنَ بِمُشْتَصِرٍ  
 میں الگ چپ گناہ کا مرکب ہتا رہا ہوں پسیرا وہ تعلق جو حضور علی السلام سے ہے ہرگز قطع  
 نہیں ہو سکتا اور نہ میری ایدی کی رسی کٹ سکتی ہے  
 فَكَانَ لِي ذَفَنَةٌ فِي نَيْتٍ سِيَّئَةٍ حَمْدَ اللَّهِ أَفْوَأْ فِي الْحَالِقِي بِالْذَّمَاجِ  
 پونکہ میرا نام بھی محمد ہے سداں بہنامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ دیمان میری  
 شفاعت کے لئے لازم الایفا ہو گیا ہے کیونکہ آپ تمام دنیا سے یقینے عہد میں بڑھ ہوئے ہیں۔  
 اُنْ لَجَائِنَ فِي مَعَلَمِي اَخْذَ اِيمَانِي فَضْلًا لَا لَفْظَلَنَ يَا اَنَّ اللَّهَ الْقَدَّارُ  
 اگر قیامت کے دن آپ ازو نے مہربانی دیمان میری دستگیری نہ فرمائیں گے تو مجھے کہنا  
 چاہیئے کہ ہانے لغزش سینی میری قسمت!  
 سَاحَةَ أَنْ يُخْرِمَ الْأَذَاجِي مَكَارَمَةً أَوْ يَرْجِعَ الْجَاهِلَةَ مِنْهُ غَيْرَ مُخْتَرَمٍ  
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ بیدار ہے کہ آپ کے الطاف کرم امیدا کو محروم کریں یا  
 آپ کے الطاف سے وہ محروم کیا جائے اور آپ کا پاہ گزیں آپ کی درگاہ سے بلا احترام اپس ہر  
 وَمَنْذَ الْزَّمْنِ اَنْكَلَادِي مَدَائِحَهُ وَبِيَدِهِ لِخَلَاصِي خَيْرٌ مُلْتَزَمٌ  
 میں نے جب سے پانچ انکار کو حضور علی السلام کی نعمت کے لئے لازم یا وقف کر دیا ہے اتبے  
 میں نے حضور علی السلام کو اپنی بیجات کا بہرین مادلن پایا  
 وَلَنْ يَقُولَنَّ الْغَافِي مِنْهُ بِيَدِ اِثْرَيَتِ إِنَّ الْحَمَاءِيَنِيَتِ الْأَزْهَارِيَفِ الْأَكْمَهِ  
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصی کسی خاک آنحضرت ہاٹھ کو نہیں پھرڈتی کیونکہ بارش ٹیلوں پر بھی بچھل کھلانے

بِالْكَرْمِ الْخَلِقِ مَا لِي مَنْ أَنْذَبَهُ  
سَوَالُهُ عِنْدَ حَلْوَى الْحَادِثِ الْعَمَّمِ  
إِلَى أَشْرَفِ الْخَلْقَاتِ! سَوَاءٌ آپَ كَمْ بَقْتَ نَزَلَ حَادِثَاتٍ عَامِهِ كُلِّي إِلَيْهِنْ هِيَ بِهِ جَسِّ  
كَمْ بَلَى مَكِيرِ مَيْسِنْ پِنَاهِ لَوْلِ

وَكُنْ يُضْيِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهِلَكَ بِنِي  
إِذَا النَّكِيرُ يُنْهِي تَجْهِيلَ يَاسِمَ مُنْتَقِبِي

جَبْ خَلَادِنِهِ كِرِيمَ قِيَامَتَ كَمْ فَنَقَمَ كِي صِفَتَ مِنْ جَلْوَهُ كِرِيمَ كِرِيمَ تَحْصِرُ عَلَيْكَ الْعُصْلَةَ وَالسَّلَامِ  
مِيرِي شَغَاعَتَ كَرْنَهِ مِنْ آپَ كَامِرِتَهِ عَلِيَا وَشَانِ اعْلَمِي كِمْ نَهِيَنْ هَرِيَكَتا  
فَلَمَّا مِنْ جُنُودَكَ الدُّنْيَا وَضَرَبَهَا  
وَمِنْ عَلْوَتَكَ عَلَمَ الْلَّوحِ وَالْقَلَمِ

آپِي كِي خَنْشَشَ سَے دِنِيَا اِسَ کِي سُوتِ (آخِرَت) مَعْرِضِ دِجَورِ مِنْ آئِسِ يَارُولِ اَشْرَا  
اوَرِ لَوْحِ وَقَلَمِ كَأَعْلَمِ آپَ كَعَلَمَ كَا يَكِ جَزِيَّهِ  
يَا نَفْسُ لَا تَنْقِبِي مِنْ ذَلِكَ عَظِيمَتْ  
لَائِقُ الْكَبَائِرِ فِي الْقُرْآنِ كَالْسَّبَبِ  
لِنَفْسِ! اِسِ خَيَالِ سَے كَتِيرَهُ گَنَاهُ طَبِيَّهِ ہِيَں نَا اِمِيدَهُ مِنْہَا كِيونَكَهُ مَغْفِرَتَ كَمْ لَئِنْ  
گَنَاهُ كِسِيَّوْ كِيَا اُدْعَيْبِيَّرَهُ كِيَا سِرِدُ بِارِمِيَّہُ

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّيْ حَيْنَ يَقِيمُهَا  
لَائِقُ عَلَى حَسَبِ الْعَصَيَّانِ فِي الْقِيمَهِ  
اسِ مِنْ شَكِ نَهِيَنْ ہِيَ كَهُ خَدَاعِيَا جَبْ اِسِيْ حَمَّتْ كَتْقِيمَ فِي اِيَّيِّسِ گَهُ رَحْمَتْ گَنَاهُ بَكَارِدُونْ  
كَهُ حَسَرِ مِنْ يَقِيدَ گَنَاهَ آنَے گِي

يَا رَبِّهَا وَاجْعَلْ رَجَائِيْ غَيْرَ مُنْتَقِسِ  
لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حَسَلَيْ غَيْرَ مُنْجَمِ  
إِلَيْ مِيرَے نَهَا! مِيرِي اِمِيدَهُ تو بَجِيَّهِ سَدِيَّهِ رَذْنَهُ كِرِيمَ! اَوْدِيَرِيَّهِ لَيْقَنَ كَوْجَتِيَّهِ رَحْمَتَ كَمْ مَعْلَقَ  
بِهِ مَنْقَطَسَحَ زَفَرا

وَالْطُّفِ بِعَنْدِكَ فِي الدَّائِنِ إِنَّ لَهُ  
صَبْرًا مَتَّى تَدْعَةَ الْأَهْوَانِ يَنْهَا زِمْ  
خَدَا! دَلَفُنْ بِهَانَلِ مِنْ اِيَّنَهُ بَرِيَّانِي كَهُ كِيونَكَهُ اِسِ كَاصِبَرِيَا كِمْ دِرِيَّگِيَا ہِيَ كَهُ جَبْ صَبِيَّيِّرِ  
اسِ كَوْقَابِلِ كَمْ لَئِنْ بَلَاتِي ہِيَنْ تَرَدَهُ تَابِ مِقَابِلَهُ لَلَّا كَهُ بَجاَگَهُ گَنَگَتَهُ

وَلَئِنْ لَتُخْبِرْ صَلَوةً قَنْكَ دَائِنَةً عَلَى الْجِنِّيِّ مُمْتَنِيَ وَمُنْسَجِجَ  
 خدا! اپنی رحمت کے باطل کو حکم دے کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہر وقت بستے رہیں  
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْعَقَدِ لَمَّا تَلَمَّعَتِ الْأَنْفَوْنَ أَفْلَى الشَّفَاعَةُ وَالْكَلْمَعُ وَالْكَرْبَمُ  
 خدا! حکم دے کہ رحمتِ دانی کے باطل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب اور تابعین  
 (علیہما الرضوان) پر ہر جگہ کار تھے اور پاکیزہ اور صاحب حلم و کرم تھے، بستے رہیں  
 مَا ذَكَرْتُ عَدَّ بَلَاتِ الْبَلَانِ بِرِنْمَهْ صَبَّاً دَأَطْرَبَ الْعَيْنَ حَادِيَ الْعَيْنَ بِالْغَمْجَمَ  
 بلان رحمت خدا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آل اصحاب اور تابعین (رضی ائمۃ العالی عنہم گھمین)  
 پر اس وقت تک بستا رہے جب تک کہ باہمیا درخت بان کی ٹہنیوں کے بلانی سہے اور  
 ہدی خوان سواری کے اذٹل کو اپنے سر پلے فقول سے سڑ رہیں لاتا ہے

---



---

مولانا اشناہ احمد صاحب بیلوی

## میسٹر مکمل

شمع بزم ہدایت پ لامکوں سلام  
گل بلغ رسالت پ لامکوں سلام  
نو بمار شفاعت پ لامکوں سلام  
نو شہ بزم جنت پ لامکوں سلام  
فرش کی طبیب و نزہت پ لامکوں سلام  
نائبِ دستِ قدرت پ لامکوں سلام  
اس سزاۓ سیادت پ لامکوں سلام  
اس کی قاہر ریاست پ لامکوں سلام  
قاسمِ کنز نعمت پ لامکوں سلام  
ختمِ دور رسالت پ لامکوں سلام  
فتن اذہار قبیلت پ لامکوں سلام  
شاہ ناموتِ جلوت پ لامکوں سلام  
مقطوعِ ہر سیادت پ لامکوں سلام  
کف روزِ مصیبت پ لامکوں سلام  
اس خدا ساز طلعت پ لامکوں سلام  
ماں کی استقامت پ لامکوں سلام  
اس رُگِ ہاشمیت پ لامکوں سلام  
اس جبینِ سعادت پ لامکوں سلام  
ان بھوؤں کی للافت پ لامکوں سلام

صلفی جانِ رحمت پ لامکوں سلام  
مر جمیع نبوت پ روشن درود  
شر یارِ ام تاجدار حرم  
شبِ اسرئی کے دو لما پ واعظ درود  
عرش کی نیب و نینت پ عرشی درود  
صاحب رجعتِ عرش و شقِ القمر  
جس کے زیرِ لوا آدم و من سوا  
عرش تا فرش ہے جس کے زیرِ تکیں  
اصل ہر بود و ببود غنیم وجود  
فتحِ بابِ نبوت پ بے چد درود  
شرقِ انوارِ قدرت پ فوری درود  
ماہِ لا ہوت خلوت پ لامکوں درود  
پ تو اسمِ ذاتِ احمد پ درود  
خلق کے دادرس سب کے فرید رس  
وصف جس کا ہے آئینہ حق نما  
یلتِ القدر میں مطلعِ انگرِ حق  
چشمہ مر میں موج نورِ جلال  
جس کے ماتھے شفاعت کا سرا رہا  
جن کے بحدے کو محرابِ کعبہ جعل

سلکِ دُرِّ شفاقت پے لاکھوں سلام  
 زمگس باغ قدرت پے لاکھوں سلام  
 اوچی بینی کی رفتہ پے لاکھوں سلام  
 ان کے قد کی رشافت پے لاکھوں سلام  
 اس چک والی رنگت پے لاکھوں سلام  
 اس کی پچی برافت پے لاکھوں سلام  
 ہالہ ماہ ندرت پے لاکھوں سلام  
 اُس دہن کی طراوت پے لاکھوں سلام  
 اس زلال حلاوت پے لاکھوں سلام  
 اس کی دل کش بلاغت پے لاکھوں سلام  
 اس کی خطبے کی بہت پے لاکھوں سلام  
 اس نیمِ اجابت پے لاکھوں سلام  
 ان ستاروں کی نزہت پے لاکھوں سلام  
 اس گلے کی نثارت پے لاکھوں سلام  
 ایسے شانوں کی شوکت پے لاکھوں سلام  
 یعنی مُر نبوت پے لاکھوں سلام  
 موجود بحر ساحت پے لاکھوں سلام  
 ایسے بازوں کی قوت پے لاکھوں سلام  
 فیضخ رازِ حدت پے لاکھوں سلام  
 اس علم کی قاعۃت پے لاکھوں سلام  
 زانوں کی وجہت پے لاکھوں سلام  
 اس کفِ پا کی حرمت پے لاکھوں سلام  
 اس دل افروز ساعت پے لاکھوں سلام  
 یاد گاری امت پے لاکھوں سلام

اثکباری مرٹگاں پے برسے درود  
 معنیِ قدِ رای مقصدِ ماطغہ  
 نبھی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود  
 ان کے خد کی سولت پے بے حد درود  
 جس سے تاریک دل جنمگانے لگے  
 خبیث باغِ حق یعنی رخ کا عق  
 ریش خوش معتدل مرہم ریش دل  
 جس کے پانی سے شاداب جان و جتائ  
 جس سے کماری کتوئیں شیرہ جان بنے  
 اس کی پیاری فصاحت پے بے حد درود  
 اس کی بالوں کی لذت پے لاکھوں درود  
 وہ دعا جس کا جون بمار قبول  
 جن کے گھنے سے لپھے جمزیں نور کے  
 جس میں نہیں ہیں شیر و شکر کی روائ  
 دوش بردش ہے جن سے شانِ شرف  
 مجر اسود کعبہ جان و دل  
 ہاتھ جس سست اخما غنی کر دیا  
 جس کو بار دو عالم کی پروا نہیں  
 دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں  
 کل جہاں ملک اور جو کی روئی غذا  
 انبیا نہ کریں زانوں ان کے حضور  
 کھلائی قرآن نے خاک گزر کی قسم  
 جس سانی گمری چکا طیبہ کا چاند  
 پسلے سجدہ پے روز ازل سے درود

برج ماہ رسالت پے لاکھوں سلام  
 اس خدا بھاتی صورت پے لاکھوں سلام  
 کمینے سے کراہت پے لاکھوں سلام  
 بے کلف ملاحت پے لاکھوں سلام  
 پیاری پیاری نفاست پے لاکھوں سلام  
 کوہ و صحرائی خلوت پے لاکھوں سلام  
 اس جماگیر بحث پے لاکھوں سلام  
 عالم خواب راحت پے لاکھوں سلام  
 گریہ ابر رحمت پے لاکھوں سلام  
 گری شان سطوت پے لاکھوں سلام  
 اس خدا واد شوکت پے لاکھوں سلام  
 آنکھوں والوں کی ہمت پے لاکھوں سلام  
 بھیجنیں سب ان کی شوکت پے لاکھوں سلام

مدد والا کی قست پے صدھا درود  
 اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھین  
 فصل پیدائش پر ہیشہ درود  
 بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود  
 بھنی بھنی منک پر منکتی درود  
 روز گرم و شب تیرہ و تار میں  
 جس کے گھیرے میں ہیں انجیاء و ملک  
 لطف بیداری شب پے بے حد درود  
 خندہ صحیع عشرت پے نوری درود  
 زری خونے بیت پے دام درود  
 جس کے آگے کمی گرد نیں ججک گئیں  
 کس کو دیکھا یہ موی سے پوچھے کوئی  
 کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور  
 مجھ سے خدمت کے قدی کیں ہاں رضا

مصطبلی جان رحمت پے لاکھوں سلام

---



---